

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَأَرْسَلْنَا الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا (القرآن)

29  
33-35

314

# مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْحَمْدِ

مؤلفہ

أبو عطاء المصطفیٰ قاری محمد یوسف صدیق رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

امکہ پبلی کیشنز

۱۹ ایبٹ روڈ، مقابل ٹی وی اسٹیشن، لاہور

فون : ۶۳۶۸۳۶۳ فیکس : ۶۳۶۳۱۵۷

2001

نام کتاب \_\_\_\_\_ مقصد التجوید

مؤلف \_\_\_\_\_ ابو عطاء المصطفیٰ قاری محمد اویسف صدیقی

تیسواں ایڈیشن \_\_\_\_\_ جنوری ۲۰۰۴ء

تعداد \_\_\_\_\_ گیارہ سو 84521

اہتمام \_\_\_\_\_ صاحبزادہ قاری جمیل احمد

عطاء المصطفیٰ (مدنی) صدیقی

ناشر \_\_\_\_\_ ائمہ پبلی کیشنز

قیمت \_\_\_\_\_ ۵۰ روپے

**ملنگ پبلی کیشنز**

مکتبہ صدیقیہ - جامعہ صدیقیہ سراج العلوم بیرون مٹی گیٹ لاہور۔

ضیاء القرآن پبلی کیشنز - گنج بخش روڈ لاہور۔


مکتبہ قادریہ (جامعہ نظامیہ رضویہ) اندرون لوہاری گیٹ لاہور۔

مکتبہ اویسیہ - ۳۶۳ ای گلشن راوی لاہور۔



مَوْلَانِكَ وَإِسْلَامِ أُمَّةٍ أَبَدًا  
 عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ  
 مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَافِرِينَ وَالْقَالِينَ  
 وَالْفِرَاقِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي جَاءَ شَفَا  
 لَكُنْ مَوْلَانِ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَدِمًا





بلغ لعمركم

كشف الله حجبكم

حذرت من خصاله

عليه

عقلم

## فہرست مضامین

صفحہ نمبر

نمبر شمار

۵		
۷-۶	۱- انتساب	۱- انتساب
۸	۲- ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۲- ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱	۳- پیش لفظ	۳- پیش لفظ
۱۵	۴- ضروری گذارشات	۴- ضروری گذارشات
۱۷	۵- آداب استاذ	۵- آداب استاذ
۲۰	۶- آداب تلاوت قرآن حکیم	۶- آداب تلاوت قرآن حکیم
۲۹	۷- علم تجوید	۷- علم تجوید
	۸- پہلا درس.....	۸- پہلا درس.....
	حروف ہجائیہ و قلقلہ اور حرکات وغیرہ کے بیان میں	حروف ہجائیہ و قلقلہ اور حرکات وغیرہ کے بیان میں
۳۶	۹- دوسرا درس.....	۹- دوسرا درس.....
	تجوید و قراءت اور لحن کے بیان میں	تجوید و قراءت اور لحن کے بیان میں
۳۳	۱۰- تیسرا درس.....	۱۰- تیسرا درس.....
	لام اور میم و نون مشدد اور خلاصہ وقف کے بیان میں	لام اور میم و نون مشدد اور خلاصہ وقف کے بیان میں
۳۸	۱۱- چوتھا درس.....	۱۱- چوتھا درس.....
	قرأت کی کیفیات کے بیان میں	قرأت کی کیفیات کے بیان میں
۳۹	۱۲- پانچواں درس.....	۱۲- پانچواں درس.....
	میم ساکن اور نون ساکن و تنوین کے بیان میں	میم ساکن اور نون ساکن و تنوین کے بیان میں
۵۳	۱۳- چھٹا درس.....	۱۳- چھٹا درس.....
	استعاذہ و سملہ کے بیان میں	استعاذہ و سملہ کے بیان میں
۵۵	۱۴- ساتواں درس.....	۱۴- ساتواں درس.....
	الف و ہمزہ اور را کے بیان میں	الف و ہمزہ اور را کے بیان میں

۱۸	آٹھواں درس.....	-15
۲	مخارج و صفات کے بیان میں	
۱۹	نواں درس - اوعام کے بیان میں	-16
۱۱	دسواں درس.....	-17
	مذات وقف سکتے اور قطع کے بیان میں.	
	گیارہواں درس.....	-18
	اجتماع ساکنین و ہمزه اور ہائے ضمیر کے بیان میں	
۹۹	بارہواں درس.....	-19
	کلمہ مقطوع و موصول رسم خط اجراء تعوز و تسمیہ	
	فوائد ضروریہ ضمیمہ تکبیر اور حال المرتحل اور	
۱۳۹	آخر میں جامعہ ہذا کا اجمالی تعارف	

## انتساب

میں اپنی اس ناچیز کاوش کو مخدوم الصوفیا،  
استاذی المکرم، شیخ القرآن ابو الحقائق حضرت علامہ پیر  
محمد عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام  
منسوب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ (آمین ثم  
آمین)

ابو عطاء المصطفیٰ محمد یوسف صدیقی

غفرلہ و لوالدیہ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

پیش لفظ

بعد حمد و صلوة عرض ہے کہ بندہ ناچیز کو ابتدائی دور

میں قرآن مجید حفظ کرانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور

عرصہ پچیس سال سے خدمت تجوید کی سعادت نصیب

ہے۔ شعبان المعظم ۱۳۹۶ھ میں دورہ تجوید القرآن کا اہتمام

کیا گیا اور تین سال تک شعبان المعظم اور رمضان

المبارک میں دورہ تجوید نہایت کامیاب رہا۔ شعبان المعظم

۱۳۹۶ھ میں بھی جامعہ رضویہ انجن شیڈ میں دورہ تجوید مولانا

محمد یار صاحب خطیب انجن شیڈ کی خواہش پر کیا گیا تو مولانا

موصوف نے دورہ تجوید کے کورس کو بارہ دروس پر مشتمل

کتابی شکل میں چھپوانے کی خواہش ظاہر کی مخلص دوست



حکیم قاری ابوالحسن سید مظفر حسین بخاری نقشبندی مجددی  
 کی تو عرصے سے یہ تمنا اور دعا تھی کہ یہ کورس کتابی شکل  
 میں چھپ جائے۔ الحمد للہ ان مخلص احباب کی خواہش  
 پوری ہوئی اور بندۂ ناچیز کو رب ذوالجلال نے ہمت عطا  
 فرمائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ رسالہ  
 مکمل ہو گیا۔ خداوند کریم اس رسالہ کو اپنے حبیب پاک  
 صاحب لولاک آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے صدقہ اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول فرما کر خاص و عام  
 کے لئے فائدہ مند بنائے اور بندۂ ناچیز کے لئے اخروی  
 نجات کا سبب بنائے۔ (آمین ثم آمین) یہ رسالہ آداب  
 استاد قرآن پاک کی تلاوت کے آداب بارہ دروس اور چند  
 فوائد پر مشتمل ہے۔

کتاب مسلمہ کو بارہ ربیع الاول شریف کی نسبت سے

بارہ دروس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

جناب استاذی المکرم ابو الحقائق، شیخ القرآن مولانا پیر

محمد عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقاریر میں اکثر کہا

کرتے تھے۔

آقا میری تجھ سے نسبت بڑی چیز ہے

اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا

ہے

بارھویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا

بارہ برجوں سے جھکا اک اک ستارہ نور کا

خادم العلماء و الفقراء راجی شفاعت

محمد یوسف صدیقی غفرلہ ولوالدیہ

## ضروری گزارشات

۱: یہ رسالہ ”مقدمتہ التجوید“ اگرچہ کتب تجوید کے اصول ترتیب کے خلاف ہے لیکن اہم قواعد جن کی طلباء کو ابتدائی طور پر ضرورت پڑتی ہے اس میں پہلے پہل درج کر دیئے گئے ہیں تاکہ ترتیل، تدویر اور حدر پڑھنے میں آسانی ہو اور قواعد تجوید کو تفصیلی طور پر ضیاء التجوید میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ العزیز یہ رسالہ مبتدی طلباء کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا۔ اس پر مشق کے لیے کامل استاد کی ضرورت ہے۔ اس رسالہ اور ضیاء التجوید کی تصنیف و تالیف میں میرے مخلص دوست حکیم قاری ابوالحسن سید مظفر حسین بخاری نقشبندی مجددی فاضل قرأت سبعہ و عشرہ نے میرے ساتھ بہت کوشش کی ہے۔ تمہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔

۲: درجہ تجوید کے اساتذہ کرام کی خدمت میں

زارش ہے کہ طلباء کو یہ تمام قواعد حفظ کرا دیں تاکہ قواعد کے مطابق پڑھنے میں آسانی ہو اور طلباء جلد از جلد تدویر اور حدر پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ بعض اساتذہ تجوید حفاظ حضرات سے بجائے زبانی سننے کے دیکھ کر قرآن مجید سنتے ہیں جس وجہ سے فراغت کے بعد بھی طلباء اسی طرح پہلے لب و لہجہ کو اختیار کرتے ہوئے مجہول پڑھتے ہیں بہتر یہی ہے کہ حفاظ حضرات سے تدویر اور حدر زبانی سنا جائے تاکہ تجوید کے لحاظ سے طلباء صحیح پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔

۳: حفظ کے طلباء کو یہ رسالہ حفظ کرا دیا جائے۔ اساتذہ کرام درجہ حفظ کے طلباء کو عملی طور پر نقشابہ الصوت حروف (یعنی جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے) کی پہچان کرائیں، میم اور نون مشدد اور مدات وغیرہ کی ادائیگی کا اندازہ سمجھائیں اور تیز پڑھنے سے روک دیں کیونکہ تیز پڑھنے سے کھڑے پڑے اور وقف و وصل میں امتیاز نہیں ہوتا۔ تیز پڑھنے سے بچ کر آہستہ اور صحیح پڑھنے

کے عادی بنائیں۔ علماء کرام نے تیز رفتاری کے ساتھ قرآن مجید سے آخر چھوٹی سورتوں کا پڑھنا نماز تراویح میں افضل فرمایا ہے۔ (بہار شریعت)

اس رسالہ کے اصولوں کے مطابق قرآن مجید حفظ کرایا جائے تو تھوڑے ہی عرصہ میں تکمیل روایت مفصل آسانی سے ہو جائے گی۔ سبق اچھی طرح یاد ہو تو سننا چاہیے۔ بعض اساتذہ کبار پکا سبق سن لیتے ہیں تو پھر سبق بھی کچی رہتی ہے اور منزل تو سبق اور سبق سے ہی بنتی ہے۔ پھر منزل جتنی زیادہ ہو طلباء کو تربیت دی جائے کہ آپس میں کم از کم دو پارہ کا دور کیا کریں اور اساتذہ کرام ایک پارہ روزانہ منزل سننے کی زحمت فرمائیں اور سبق پڑھاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنا سبق پڑھایا جائے پھر طالب علم سے سنا جائے تاکہ طالب علم زبر، زیر، پیش اور کھڑے پڑے میں غلطی نہ کرے۔ سبق طالب علم کے لیے بنیاد ہے

نخست اول چوں نهد معمار کج  
تا ثریا می رود دیوار کج

یعنی پہلی اینٹ جب کاریگر ٹیڑھی رکھتا ہے تو بلندی تک  
دیوار ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔

حفظ کرنے کے بعد اگر حافظ اپنی منزل پانچ پارے  
روزانہ پڑھیں تو منزل کچی ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔

## آداب استاد

علماء کرام اور محدثین عظام نے استاد کے آداب کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے جس کی تفصیل کتاب ”نصیاء التحوید“ میں انشاء اللہ العزیز ملے گی۔ یہاں اختصاراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے بہترین نسخہ ثابت ہو اور اس پر عمل پیرا ہو کر بلند مقام پر فائز ہو سکیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں چاہے مجھے فروخت کرے یا غلام بنا لے مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ محدثین عظام نے فرمایا ہے کہ طالب علم فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک اساتذہ کرام کا دل سے احترام نہ کرے۔ جس شخص نے جو کچھ بھی حاصل کیا احترام ہی کی بدولت حاصل کیا ہے اور جو کوئی گرا ہے وہ بے ادبی اور گستاخی کے باعث گرا ہے۔ استاد کی غیبت کرنا یا لوگوں سے

شکوہ کرنا اور دل سے احترام نہ کرنا ایسا نقص ہے جو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے دیتا۔ اگر کچھ حاصل کر بھی لیں تو ایسا علم شیطان کے علم کی طرح نفع نہیں دیتا۔ فیض جاری نہیں رہتا۔ گستاخ اور بے ادب شاگرد کے دونوں جہان برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اساتذہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔

از خدا خواہیم توفیق ادب

بے ادب محروم ماند از لطف رب

یعنی ہم خدا تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔ کیونکہ بے ادب اللہ تعالیٰ کے لطف سے محروم رہتا ہے یہ مثل مشہور ہے کہ

با ادب بانصیب      بے ادب بے نصیب



## آوب تلاوت قرآن حکیم

قرآن مجید حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا خزانہ ہے جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ طیبہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد گرامی ہے کہ **كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ**، تو ایسی عظمت والی کتاب کی تلاوت کے وقت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ وہ کتاب ہے جو خداوند کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔

آپ نے اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کر کے صحیح حق ادا فرما دیا اگرچہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا تلاوت قرآن پاک

کے وقت خوشنودی باری تعالیٰ و رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر ہو۔ باوضو، قبلہ رو ہو کر، خوشبو لگا کر، خلوص دل اور خشوع و خضوع کے ساتھ قواعد تجوید کی رعایت کر کے خوش الحانی کے ساتھ یوں پڑھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں بیٹھا ہے اور بواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور سننے والا صاف صاف ملاحظہ کرے کہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے کلام سے محبت رکھتا ہے۔ جس سے سننے والوں پر اثر ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

یعنی خوش آوازی سے قرآن مجید کو مزین اور آراستہ کرو۔

علماء کرام نے فرضیت تجوید پر اجماع نقل فرمایا ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے کو فرض عین اور اس کے ترک کرنے والے کو گنہگار قرار دیا ہے۔ علماء کرام نے فرضیت تجوید پر جو اجماع نقل کیا ہے اس کا بیان آگے

آئے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کی تلاوت کرنے  
 کے طریقے کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل  
 کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

## علم تجوید

سوال: تجوید کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے؟

جواب: تجوید کا واجب اور لازمی ہونا قرآن و سنت، اجماع و قیاس اور آئمہ فقہاء سبھی سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی دلیل سورہ منزل کی یہ آیت ہے:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

یعنی اور قرآن حکیم خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو تباہ امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے۔

(تفسیر کنز الایمان)

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اس آیت

مبارکہ کی تفسیریوں ارشاد فرمائی ہے۔

التَّزْيِيلُ مُوجِبٌ لِلْحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ ط

یعنی ترتیل نام ہے حروف کو تجوید سے ادا کرنے اور وقف و ابتدا کے محل و طریقہ پہچاننے کا۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ترتیل کے دو جز بیان فرمائے ہیں۔ اور دونوں کا تعلق معنی سے ہے۔ کیونکہ حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بے موقع وقف کرنے سے غلط معنی کا ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

أَنَّ جَوْدَ الْقُرْآنِ تَجْوِيدًا

یعنی قرآن بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھو۔

اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لغت کی رو سے ترتیل کے معنی ہیں واضح اور صاف پڑھنا۔ اور شریعت میں ان سات چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ترتیل ہے۔

(۱) حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا

- (۲) وقف و ابتداء کا پہچانا
- (۳) تینوں حرکات کو صحیح ادا کرنا
- (۴) آواز کا قدر بلند کرنا
- (۵) عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا
- (۶) تشدید و مد کا خیال رکھنا
- (۷) ترہیب و عذاب کی آیات پر دعاء اور استغفار کرنا اور ترغیب و ثواب کی آیات پر جنت کے لئے سوال کرنا۔ اور اس فن کے امام حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ ہیں مقدمہ جزریہ میں فرماتے ہیں۔

وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَمٌّ لَا يَزَامُ  
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْقُرْآنَ إِشْمًا

اور تجوید کو حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْزَلَهُ  
وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا

اس لئے کہ تجوید ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید

نازل فرمایا ہے۔

اور اسی طرح (یعنی تجوید ہی کے ساتھ) اس خدا تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔۔ **وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا** ۰

یعنی ہم نے قرآن مجید کو تجوید و ترتیل ہی کے ساتھ نازل کیا ہے

اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں صحابہ کرام اور ائمہ و شیوخ کے ذریعہ قرآن حکیم تجوید کے ساتھ حق تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔

قرآن مجید کی یہ آیت بھی تجوید کے وجوب کی دلیل ہے۔

**الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ط**

یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔

سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں: حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے حلال کو حلال جانے، اس کے محرّمات

کو حرام سمجھے اور اس کے حروف کو صحیح ادا کرے۔ غفلت سے غلط پڑھنا حرام ہے اور عمداً غلط پڑھنا کفر ہے کیونکہ یہ بھی قرآن مجید کی تحریف ہے۔

(تفسیر نعیمی)

اور حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حق تلاوت یہ ہے کہ تلاوت میں زبان و عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔

- (۱) زبان کا حصہ حروف کی تصحیح
- (۲) عقل کا صحیح معانی و مطالب کی تفسیر
- (۳) دل کا حصہ اطاعت و نصیحت پذیری ہے

اور ایک حدیث پاک میں ہے:

”عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْرَأَ الْقُرْآنُ كَمَا نُزِلَ“

(اخرجه ابن خزيمه في الصحيح)

یعنی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضور پر نور صلی اللہ



علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے۔

نیز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اقْرَأِ الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا

یعنی قرآن مجید کو اہل عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب اور مجود اعظم تھے۔ آپ کی فصاحت و بلاغت کا سکہ اہل عرب کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔

تیرے آگے یوں ہیں دبے لپے فصحاء عرب کے بڑے بڑے

کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں

(اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرق تلاوت صحابہ کرام تابعین عظام اور ائمہ قرأت اور اصحاب روایت و درایت کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کو خلاف

تجوید پڑھتا ہے وہ یقیناً غلط پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے خلاف ہے۔

ایک حدیث شریف قرآن مجید غلط پڑھنے والے لوگوں کے لئے بطور تنبیہ نقل کی جاتی ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کر کے قرآن مجید صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔

رُبَّ قَارِءٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

یعنی بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید ان پر (غلط پڑھنے کی وجہ سے) لعنت کرتا ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے مصداق تین طرح کے لوگ ہیں۔

(۱) تجوید کے خلاف قرآن شریف پڑھنے والے۔

(۲) قرآن کے مطابق عمل نہ کرنے والے۔

(۳) اور اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے۔

اللہ تعالیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ان

تینوں طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین

اس مضمون کے آخر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ

اللہ علیہ کے فتاویٰ رضویہ سے تجوید کے لازم و واجب ہونے کے متعلق چند فتاویٰ درج کیے دیتا ہوں تاکہ اہلسنت حضرات علم تجوید حاصل کرنے اور پھیلانے میں پوری سعی و کوشش کریں۔

استفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ اکثر جملاء قواعد تجوید سے انکاری ہیں اور ناحق بتاتے ہیں۔

الجواب:- تجوید قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت و واجب اور علم دین ہے۔ تجوید نص قطعی قرآن و اخبار متواترہ سید الانس و الجان علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ والسلام و اجماع تمام صحابہ و تابعین و سائر ائمہ کرام علیہم الرضوان المدام حق و واجب ہے۔ تجوید علم و دین شرع الہی ہے۔ (ص ۱۱۸)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً  
ایک اور مقام پر آپ نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ صحیح طور پر مخارج و حروف ادا نہ کرنے والے کو نماز میں امام نہ بنایا جائے کیونکہ غلط پڑھنے کی وجہ سے جب اس کی اپنی نماز

نہیں ہوتی تو دوسروں کی کیسے ہوگی؟۔

اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنے اور  
اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم  
آمین

فقیر صدیقی غفرلہ

## پہلا درس

حروف ہجائیہ، حروف قلقلہ اور حرکات وغیرہ کے بیان میں

حروف ہجائیہ یعنی حروف قرآنی انتیس (۲۹) ہیں

الف	با	تا	ثا	جیم	حا
ا	ب	ت	ث	ج	ح
خا	دال	ذال	را	زا	سین
خ	د	ذ	ر	ز	س
شین	صا	ضاد	طا	ظا	عین
ش	ص	ض	ط	ظ	ع
غین	فا	قاف	کاف	لام	میم
غ	ف	ق	ک	ل	م
نون	واو	ها	همزة	یا	
ن	و	ھ	ء	می	

## مشابہ الصوت حروف:-

یعنی جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ان کی تعداد سولہ ہے اور وہ یہ ہیں۔

- |    |   |   |
|----|---|---|
| ۱۔ | ت | ط |
| ۲۔ | ث | س |
| ۳۔ | ح | خ |
| ۴۔ | ہ | ہ |
| ۵۔ | ذ | ظ |
| ۶۔ | ع | ع |
| ۷۔ | ق | ک |

## غیر مشابہ الصوت حروف:-

یعنی جن حروف کی آوازیں کسی دوسرے حرف سے نہیں ملتیں۔ ان کی تعداد تیرہ ہے اور وہ یہ ہیں۔

- ا ب ج د ر ش غ ف ل  
م ن و ی:-

## مفخم حروف:-

ہر حال میں پُر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف کی تعداد سات ہے اور وہ یہ ہیں۔

- ص ض ط ظ خ غ ق

## مرقح حروف:-

ہر حال میں باریک پڑھے جانے والے حروف کی تعداد انیس ہے اور وہ یہ ہیں۔

ب ت ث ج ح د ز س  
ش ع ف ک م ن و ہ ع ی

## شبہ مستعلیہ حروف:-

یعنی کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کی تعداد تین ہے اور وہ یہ ہیں۔

ا ل ر

## حروف قلقلہ:-

حروف قلقلہ پانچ ہیں: ب ج د ط ق جن کا مجموعہ ”قَطْبُ جَد“ ہے ان حروف کے ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس جنبش کے تین درجے ہوتے ہیں

(۱) حالت وقف میں سب سے زیادہ جنبش ہوتی ہے جیسے۔

مَحِيطٌ . حَرِيْقٌ . بَعِيْدٌ .

(۲) حالت سکون میں اس سے کم ہوتی ہے جیسے

أَقْلَامُهُمْ أَطْعَمَهُمْ

(۳) متحرک یعنی زیر، زیر اور پیش کی حالت میں بھی جنبش

ہوتی ہے مگر بہت کم جیسے قَالَ - طَالَ - جَاءَ -

حروف حلقیہ۔

حروف حلقیہ یہ ہیں اء ه ع ح غ خ

تنبیہ۔

اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ حروف حلقی سے پہلے نون ساکن اور تنوین یا دیگر کوئی حرف (~~حروف قلقلہ کے علاوہ~~) ساکن ہو تو اس حرف ساکن کو نہایت لطافت کے ساتھ کامل طور پر بغیر حرکت و قلقلہ اور سکتہ کے بلا فصل ادا کیا جائے۔ جیسے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نِعْمَتٌ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ - يَنْهَوْنَ - يَنْهَوْنَ -  
يُنْعِضُونَ - مِنْ خَيْرٍ -

اس موقع پر غلطی سے بچنا چاہیے اور مشاق استاد سے صحیح سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حرکات

عربی زبان میں زیر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے اور جس حرف پر زیر، زیر اور پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ عربی زبان میں زیر کو فتح اور زیر کو کسرہ



اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح، جس کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور اور جس پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ ادائیگی میں فتح کی آواز آدھے الف کی آواز کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی میں آواز اور منہ کھل جاتے ہیں۔ کسرہ کی آواز آدھے یا کی آواز کے برابر ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی میں منہ اور آواز میں پستی ہوتی ہے۔ ضمہ کی آواز آدھے واو کی آواز کے برابر ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ کلام عرب میں کسرہ اور ضمہ کو معروف پڑھا جاتا ہے مجہول پڑھنا اہل عجم کا طریقہ ہے۔

حرکات ثلاثہ کی اصل مقدار میں مشق :-

اِبُّ تِ ثِ جِ حِ دِ ذِ رِ زِ سِ شِ  
صُ ضُ طُ ظُ عُ غُ فُ قُ كُ لُ مِ نُ وُ هُ  
عُ یُ

تنوین کی پہچان :-

عربی زبان میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔

تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے جیسے  
بَبْن۔ تَتْن۔ شِثْن۔ حُجْن۔ حُحْن

سکون اور تشدید میں فرق :

جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اور اس کی ادائیگی ایک حرف کے برابر ہوتی ہے جیسے اَبُ : اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدود کہتے ہیں اور اس کی ادائیگی میں دو حرف کے برابر دیر لگتی ہے جیسے اَبُ، اصل میں اَبُ اور اَبُ اصل میں اَمُ م ہے حروف مشدود میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لیں۔

الف 'واو' یا اور کھڑی زبر' زیر اور الٹی پیش والے حروف کی مقدار' زبر زیر پیش کی مقدار سے دوگنی ہوتی ہے اور ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔

مد کے ساتھ حروف کی مشق :-

عَا عِي عُو بَابِي بُو تَاتِي تُو ثَاتِي ثُو  
جَا جِي جُو حَا حِي حُو خَا خِي خُو دَا  
دِي دُو ذَا ذِي ذُو رَا رِي رُو نَا نِي نُو

سَا سِي سُو شَا شِي شُو صَا صِي صُو  
 ضَا ضِي ضُو طَا طِي طُو ظَا ظِي ظُو  
 عَا عِي عُو غَا غِي غُو فَا فِي فُو  
 قَا قِي قُو كَا كِي كُو لَا لِي لُو  
 مَا مِي مُو نَا نِي نُو وَا وِي وُو  
 هَا هِي هُو يَا يِي يُو

ط ش ع ب ب ب ب  
 ش ش ش ش ش ش ش  
 ح ح ح ح ح ح ح  
 د د د د د د د  
 ر ر ر ر ر ر ر  
 ض ض ض ض ض ض ض  
 ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ  
 ع ع ع ع ع ع ع  
 ق ق ق ق ق ق ق  
 م م م م م م م  
 ن ن ن ن ن ن ن  
 و و و و و و و  
 ی ی ی ی ی ی ی

اسی طرح مندرجہ بالا تمام صورتوں میں روزانہ مشق کی جائے۔

## دوسرا درس

تجوید و قرأت اور لحن کے بیان میں

### تجوید کی تعریف:-

(۱) تجوید کے لغوی معنی :- کسی چیز کو اچھا کرنا اور عمدہ کرنا۔

(۲) اصطلاحی معنی :- ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام

صفات لازمہ و صفات عارضہ کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا۔

تجوید کا موضوع :- حروف تہجی یعنی حروف قرآنی

ہیں۔

تجوید کی غرض و غایت :- یہ کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھا

جائے۔

تجوید کا فائدہ :- خوشنودی باری تعالیٰ و رضائے مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم۔

تجوید کا حکم :- تجوید کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے لیکن

عملاً تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہر مسلمان مرد اور

عورت پر بقدر مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ  
فرض غین ہے۔

فائدہ:

ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ۱۔ لغوی

۲۔ اصطلاحی۔

کسی لفظ کو بنانے والے نے اسے جس معنی کے لیے وضع کیا ہو وہ لغوی معنی کہلاتا ہے جبکہ اس لفظ کا خاص معنی جو کسی جماعت نے اپنے لیے مقرر کر لیا ہو اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔

## قرأت کی تعریف:

قِرَاءَةٌ بَرُوزَانِ هِدَايَةٍ کے لغوی معنی ہیں مطلق پڑھنا جبکہ اصطلاحی معنی میں پڑھنے کا جو انداز سب سے قراء میں سے کسی قاری کی طرف منسوب ہو اسے قرأت کہتے ہیں۔  
اور یہ قرأت حضرت امام عاصم تابعی کوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔

قرأت کا موضوع:-

قرآن مجید کے اتفاقات و اختلافات سے بحث کی جائے۔

قرأت کی غرض و غایت:-

امت کے لئے تلاوت قرآن مجید کی آسانی ہو۔

قرأت کا فائدہ:-

خوشنودی باری تعالیٰ و رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ  
و سلم ہے۔

قرأت کا حکم:-

واجب کفایہ اور عمل کرنا مستنون ہے۔

## علوم قرأت

قاری مقرر کے لئے چار علوم کا جاننا ضروری ہے

۱۔ علم تجوید:-

۲۔ علم قرأت:-

ان دونوں کی تعریف بیان ہو چکی ہے۔

۳۔ رسم الخط:- اس کا جاننا تاکہ قرآن مجید کا تلفظ

صحیح ادا کیا جائے اور بے جا وقف بھی نہ کیا جائے کیونکہ وقف

رسم کے تابع ہوتا ہے۔

۴۔ علم وقف:- وقف کا پہچاننا اس لئے ضروری ہے

کہ بعض جگہ بے جا وقف کرنے سے معنی میں غلطی واقع

ہو جاتی ہے۔

## قرأت ، روایت اور طریق میں فرق :-

(۱) سبہ قرائتیں سے کسی قاری کی طرف منسوب ہو اسے قرائت کہتے ہیں۔

(۲) اور روایت کسی قاری کے جس راوی کی طرف منسوب ہو اسے روایت کہیں گے۔

(۳) اور طریق جو راویوں کے آگے شاگردوں کی طرف منسوب ہوگی۔ جیسے بطریق شاطبی و بطریق جزری

فائدہ :-

اس قرائت کے امام حضرت امام عاصم تابعی کوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آپ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے دو مشہور شاگرد ہیں۔ (۱) حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ

(۲) حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بحیثیت راوی کے ہیں اور یہ روایت حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس لئے اس کو روایت حفص کہتے ہیں۔



## لحن کی تعریف :-

لحن کے دو معنی ہیں (۱) لب و لہجہ (۲) غلطی  
یعنی تلاوت قرآن میں غلطی، لحن کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) لحن جلی :- یعنی بڑی اور کھلی غلطی۔

(۲) لحن خفی :- یعنی چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی۔

۱۔ لحن جلی :- اس کی تعریف یہ ہے کہ قشابہ  
الصوت حروف میں سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا  
جیسے الْحَمْدُ کی جگہ اَلْهَمْدُ اور الْعَلَمِينَ کی  
جگہ اَلْمَلَمِينَ یا قَدْ کی جگہ كَلُّ وغیرہ پڑھ  
رینا۔

(۲) زیر، زبر، پیش اور جزم میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ  
پڑھ رینا۔ جیسے اَنْعَمْتَ کی جگہ اَنْعَمْتُ یا اِهْدِ کی جگہ  
اِهْدِ وغیرہ پڑھ رینا۔

(۳) ساکن کو متحرک اور متحرک حروف ساکن کر دینا۔ جیسے

وَجَعَلْنَا كَجْهٍ وَجَعَلْنَا پڑھ رینا۔

(۴) کسی حرف کو گٹھا کر پڑھنا جیسے وَلَا تَقْرَبَا کی جگہ

وَلَتَقْرَبَا پڑھنا۔

(۵) کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا جیسے ضَرْب کی جگہ

ضُورِيًّا پڑھنا۔

(۶) حرف مشدّد کو مخفف یعنی ساکن کر دینا یا ساکن

حرف کو مشدّد کر دینا پہلی مثال مُسْتَقِرٌّ کی جگہ

مُسْتَقِرٌّ پڑھنا۔ دوسری مثال اَلْحَمْدُ کی جگہ

اَلْحَمْدُ اور رَبِّ الْعَالَمِينَ کی جگہ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھنا۔

اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح پڑھنا سننا حرام ہے اور اس

طرح پڑھنے والا گنہگار ہے کیونکہ بعض جگہ معنی بدل جاتا

ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی اور لحن تجوید کی ضد

ہے۔

۲۔ لحن خفی :- لحن خفی کی تعریف یہ ہے کہ صفات

عارضہ جن کے ادا کرنے سے حروف میں خوبصورتی اور

حسن پیدا ہوتا ہے رہ جائیں ان قواعد و صفات کے ادا نہ

کرنے سے حرف کی خوبصورتی اور زینت باقی نہیں رہتی۔

جیسے لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر جب زیر یا پیش ہو تو

لام پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے اسے باریک پڑھ دینا یا لفظ اللہ

کے لام سے پہلے حرف کی زیر ہو تو لام باریک پڑھا جاتا ہے

لیکن اسے پر یعنی موٹا پڑھ دینا وغیرہ لحن خفی ہے۔  
 اس طرح پڑھنا لاپرواہی میں شامل ہوتا ہے لہذا اس سے  
 بچنا ضروری ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح پڑھنا  
 مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

## تیسرا درس

لام میم اور نون مشدد اور خلاصہ وقف کے بیان میں۔

(۱) لفظ اللہ کے لام کے دو قاعدے ہیں۔ (۱) تفخیم یعنی پُر

پڑھنا (۲) ترقیق یعنی باریک پڑھنا۔

(۱) اگر لفظ ”اللہ“ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو

اس لام کو پُر پڑھنا چاہیے۔ جیسے اَللّٰهُ - رَسُوْلُ اللّٰهِ -

(۲) اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کی زیر ہو تو لام

کو باریک پڑھنا چاہئے جیسے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ - بِسْمِ اللّٰهِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -

اور اَللّٰهُمَّ کے لام کا بھی یہی قاعدہ ہے جیسے مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ اور

قَالُوا اللّٰهُمَّ کا لام بھی پُر پڑھا جائے گا اور قُلِ اللّٰهُمَّ کا لام

باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام لام باریک پڑھے

جائیں گے۔ جیسے اَلَّذِيْنَ - كُتِبَ - صَلَّى - وَغَيْرِهِ۔

میم اور نون مشدد۔

میم اور نون مشدد کا ایک ہی قاعدہ ہے۔ غنہ کرنا، یعنی بقدر

ایک الف کے، ناک میں آواز لمبا کر کے پڑھنا،  
جیسے اَمَّرَ اَمَّرَ اَنَّ اَنَّ اَنَّ

خلاصہ وقف :- وقف کی تعریف یہ ہے کہ سانس اور آواز دونوں کو بند کر کے اور حرف موقوف علیہ یعنی جس کلمہ پر وقف کیا ہے اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر دینا اگرچہ وہ حرف متحرک یعنی زبر، زیر یا پیش والا ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر حفاظ وغیرہ وقف کرنے میں دو طرح کی غلطی کر دیتے ہیں۔

(۱) وقف کرتے وقت سانس اور آواز بند کر دیتے ہیں لیکن کلمہ کے آخری حرف پر حرکت پڑھ دیتے ہیں جیسے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے آخری میم پر زبر پڑھ کر وقف کر دیتے ہیں۔

(۲) کلمہ کے آخری حرف کو ساکن تو کر دیتے ہیں لیکن سانس اور آواز جاری رکھتے ہیں جیسے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اَلْعٰلَمِيْنَ کے نون اور الرَّحْمٰنِ کے

میم کی حرکت تو نہیں پڑھتے دونوں کو ساکن کر دیتے ہیں لیکن سانس اور آواز جاری رکھتے ہیں اسی طرح پڑھنا

مجددین کے نزدیک بہت معیوب ہے لہذا اس سے بچنا چاہئے۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔

### وقف کی مشہور علامات :-

(۱) ○ :- یہ گول دائرہ آیت کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا بہتر ہے۔

(۲) ۞ :- یہ وقف لازم کی علامت ہے اس پر ضرور ٹھہرنا چاہئے۔

(۳) وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بھی وقف کرنا افضل ہے۔

(۴) ط :- یہ وقف مطلق کی علامت ہے اس پر وقف کرنا بہتر ہے۔

(۵) ج :- یہ وقف جائز کی علامت ہے اس پر وقف کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہیں اور وقف بہتر ہے۔

(۶) ز :- یہ وقف مجوز کی علامت ہے اس پر وقف نہ کرنا بہتر ہے۔

(۷) لا :- یہ علامت وقف نہ کرنے کی ہے اس جگہ نہیں ٹھہرنا چاہئے۔ البتہ ان لا - لا - دونوں علامات

پر ٹھہرنے میں حرج نہیں۔  
نوٹ:- وقف کی مفصل بحث آگے آئے گی۔

## چوتھا درس

### قرأت کی تین کیفیتوں کے بیان میں

جاننا چاہئے قرآن مجید کی تلاوت کے تین درجے ہیں۔

(۱) ترتیل (تحقیق) (۲) تدویر (۳) حدر

(۱) ترتیل :- ٹھہر ٹھہر کر خوب صاف صاف پڑھنے کو کہتے ہیں۔

(۲) تدویر :- ذرا قدرے تیز رفتار سے پڑھنے کو کہتے ہیں۔

(۳) حدر :- اس سے بھی قدرے تیز پڑھنے کو کہتے ہیں جس سے مخارج و صفات کھڑے پڑے اور وقف و وصل کی صحیح ادائیگی ہو جائے۔ اور اصول تجوید کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور یہ تدویر اور ترتیل سے نسبتاً "مشکل" ہے اس میں محنت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔



## پانچواں درس

میم ساکن نون ساکن اور تنوین کے بیان میں

میم ساکن کے تین قاعدے ہیں (۱) ادغام (۲) اخفاء  
(۳) اظہار

(۱) ادغام کا قاعدہ :- یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد  
اگر میم متحرک آجائے تو بقدر ایک الف کے غنہ کے ساتھ  
ادغام کیا جائے گا جیسے **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَّهُمْ مَشْوَابُهَا**۔  
اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔

(۲) اخفاء کا قاعدہ :- یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد  
اگر حرف با آجائے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کیا جائے گا۔ جیسے **وَمَا  
هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ** اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔

(۳) اظہار کا قاعدہ :- یہ ہے کہ میم ساکن کے  
بعد میم اور با اور الف کے علاوہ چھبیس حروف میں سے کوئی  
حرف بھی آجائے تو میم ساکن کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ

کے جلدی سے ادا کیا جائے گا۔ جیسے اَمْرَ لَمْ۔ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ  
اس کو اظہارِ شفوی کہتے ہیں۔

تنبیہ :- میم ساکن کے بعد واو آجائے تو اظہار  
پوری احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اکثر حضرات ادغام کر دیتے  
ہیں۔

یہ بالکل غلط ہے جیسے عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ السَّلَامُ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

اسی طرح میم ساکن کے بعد حرف فا آجائے تو بھی صاف  
اظہار کرنا چاہئے۔ جیسے وَیَمْدُهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ

فائدہ :- میم ساکن کے بعد جب واو آجائے تو اس  
کے ادا کرتے وقت ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو نرمی کے  
ساتھ ملا کر واو کی وجہ سے ہونٹوں کو فوراً "گول کیا جائے۔  
(۲) نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں (۱) اظہار  
(۲) ادغام (۳) انقلاب (۴) انحاء

اظہار کا قاعدہ :- یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین  
کے بعد اگر چھ حروف حلقی ء ہ ع

ح غ خ میں سے کوئی حرف بھی آجائے  
 تو نون ساکن اور تنوین کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے  
 جلدی سے ادا کیا جائے گا۔ جیسے اُنْعَمْتَ - عَذَابٌ عَظِيمٌ  
 اس کو اظہارِ حلقی کہتے ہیں۔

ادغام کا قاعدہ :- یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین  
 کے بعد حروف (رِملُون) کے چھ حروف میں سے کوئی حرف  
 بھی آجائے تو نون ساکن اور تنوین کا اس حرف میں ادغام  
 کیا جائے گا چار حروف م ن و ی  
 (مَنْوِی) میں ادغام مع الفہ ہوگا جیسے مَنْ يَقُولُ -  
 مِنْ وَاٰلٍ - خَيْرًا يَّرَهُ - رَعْدًا وَرَجْفًا - اور لام اور را میں ادغام  
 بلا غنہ ہوگا جیسے وَلٰكِنْ لَا - مِنْ رَبِّهِمْ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -  
 عَفْوًا رَّحِيْمًا -

تنبیہ :- نون ساکن اور حروف رِملُون میں سے  
 کوئی حرف ایک کلمہ میں ہوں تو ادغام نہیں ہوگا اظہار کیا  
 جائے گا جیسے دُنْيَا - قِنْوَانٌ - صِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ اس کو اظہار  
 مطلق کہتے ہیں۔

(۳) اقلاب کا قاعدہ :- یہ ہے کہ نون ساکن اور

تنوین کے بعد اگر حرف با آجائے تو تون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء شفوی کی طرح غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ جیسے مِنْ بَعْدِ - سَمِيعٌ كَبِيْرٌ۔

(۴) اخفاء کا قاعدہ :- یہ ہے کہ چھ حروفِ حلقی

اور چھ حروفِ یرملون اور ایک حرف با اور الف ان چودہ

حروف کے علاوہ باقی ان پندرہ حروف ت ت ث ج

د ذ ز س ش ص ض ط ظ

ف ق ک میں سے کوئی حرف بھی نون ساکن

اور تنوین کے بعد آجائے تو اخفاء غنہ کے ساتھ کیا جائے گا

جیسے اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ - رِزْقًا قَالُوا - جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ۔

اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں اور اس کی ادائیگی اظہار اور

ادغام کی درمیانی حالت میں ہوتی ہے۔

## چھٹا درس

استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں

استعاذہ پڑھنے کا حکم :-

قرآن مجید کی تلاوت کی ابتداء جہاں سے بھی کی جائے تو **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** کا پڑھنا ضروری ہے اور اس کے پڑھنے کی دو جگہ ہیں۔ (۱) ابتدائے قرات ابتدائے سورت سے ہو (۲) ابتدائے قرات سورت کے کسی حصے سے ہو۔

بسم اللہ پڑھنے کا حکم :-

بسم اللہ کا پڑھنا ہر سورت کے شروع میں ضروری ہے۔ سوائے سورت توبہ کے۔ پھر اس کے تین مقام ہیں (۱) ابتدائے قرات ابتدائے سورت سے ہو تو بسم اللہ شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ (۲) درمیان قرات ابتدائے سورت سے ہو یعنی ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت

کی ابتداء میں بھی بسم اللہ شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔  
 (۳) ابتدائے قرأت درمیانِ سورت سے ہو یعنی کسی رکوع  
 یا آیت سے تلاوت شروع کی جائے تو پھر بسم اللہ شریف  
 کے پڑھنے کا اختیار ہے خواہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن پڑھنا  
 افضل ہے۔ (۴) اور اگر درمیانِ قرأت ابتدائے سورت توبہ  
 سے ہو یعنی سورۃ انفال ختم کرنے کے بعد سورۃ توبہ سے  
 ابتدا کی جائے (۵) ابتدائے قرأت 'ابتدائے سورۃ توبہ سے  
 ہو تو ان دونوں صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے  
 گی۔

## ساتواں درس

### الف ہمزه اور را کے بیان میں

(۱) الف کی تعریف یہ ہے کہ الف ہمیشہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے اور الف کا ما قبل یعنی پہلا حرف مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے  
قَالَ طَالَ مَالًا

(۲) ہمزه کی تعریف یہ ہے کہ ہمزه متحرک اور ساکن بھی ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے جیسے الْحَمْدُ - رَأَيْتَ لَكَ نَعْبُدُ -  
أَنْزَلَ - يُؤْمِنُونَ - مَا كُؤَل -

ہمزه ہر حال میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ لیکن الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے یعنی پُر حرف کے بعد الف بھی پُر پڑھا جائے گا جیسے طَالُوتَ قَالَ - صَالِحٌ - غَالِبُونَ - عِظَا مَا -  
خِلْدُونَ - وَلَا الضَّالِّينَ - أَرَادَ اللَّهُ -

را پڑھنے کے دو قاعدے ہیں :-

(۱) پُر (۲) باریک - را پُر کی سات مثالیں ہیں۔

(۱) را مفتوح و مضموم اسی طرح دو زیر، دو پیش، خواہ مشدود ہو یا نہ ہو جیسے **رَأْسُوْلُهُ**، **رُسُلُهُ**۔ **رَأْسَاذَاتٌ لِّهَبِّهِ**۔  
**رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔ **مِنْ رَأْسِكُمْ**، **رَغْفُورُهُ**، **رَأْسِيَّتُهُ**۔  
**رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔

(۲) را ساکن ما قبل مفتوح یا مضموم ہو جیسے **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔ **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔  
(۳) را ساکن سے پہلے حرف کا کسرہ عارضی ہو جب کہ اس سے ابتداء کی جائے جیسے **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔

(۴) را ساکن اور حرف مکسور دو کلموں میں ہوں جیسے **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔  
**رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔

(۵) را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور را کے بعد اسی کلمہ میں صرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف مفتوح آجائے جیسے **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔  
**رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔ **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔ **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔

(۶) را بوجہ وقف کے ساکن ہو تو را سے تیسرے حرف پر زیر یا پیش ہو جیسے **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔ **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔

(۷) را مرامہ یعنی پیش والی را پر اگر روم کے ساتھ وقف کیا جائے جیسے **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔ **رَأْسَاغَامِيَّةٌ**۔



را باریک کی چھ مثالیں ہیں:-

- (۱) را مکسور ہو یا دو زیر والی ہو خواہ مشدّد ہو یا نہ ہو  
جیسے رِسَالَةٌ - ذُرِّيَّةٌ - بَحْرٌ مُضَارٌّ وَصِيْبَةٌ -  
(۲) را ساکن ماقبل مکسور ہو جیسے اَنْذِرْ فِرْعَوْنَ، لیکن اس را  
کی تین شرطیں ہیں (۱) کسرہ اصلی ہو۔ (۲) کسرہ اور را ایک  
ہی کلمہ میں ہوں۔ (۳) اسی کلمہ میں را کے بعد کوئی حرف  
مستعلیہ نہ ہو۔

- (۳) را بوجہ وقف کے ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی  
ساکن ہو تو را سے تیسرے حرف کی زیر ہو جیسے بَكَوْ - حَجْرٌ -  
(۴) را بوجہ وقف کے ساکن ہو اور اس سے پہلے یائے  
ساکن ہو جیسے نَحِيْرٌ - ضِيْرٌ - قَدِيْرٌ - بَصِيْرٌ ۔  
(۵) را ممالہ یعنی جس را پر امالہ کیا جاتا ہے جیسے حَجْرِيْهَا  
(۶) را مرامہ یعنی ایک زیر یا دو زیر والی را جس پر روم کے  
ساتھ وقف کیا جائے جیسے وَنْذِرْ - مَدِيْرٌ ۔

## آنکھواں درس

### مخارج و صفات کے بیان میں

مخارج :- حروف تہجی کل انتہیں ہیں جن کے مخارج صحیح قول کی بنا پر سترہ ہیں جن مقامات سے حروف ہجائیہ نکلتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے مخرج کے معنی ہیں نکلنے کی جگہ اور حروف کو صحیح مخرج سے نکالنا ہی تجوید کا اصل مقصد ہے اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے ہمزہ متحرک لگا کر ادا کریں اور جس جگہ سے آواز نکلے تو سمجھ لیں کہ یہی اس کا مخرج ہے مگر یہ ماہر استاد سے مشق کر کے ہی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مخارج سے پہلے طلباء کو دانتوں کا جاننا ضروری ہے کیونکہ بعض حروف کا تعلق دانت سے ہے اور انسان کے منہ میں تقریباً "بیس دانت ہوتے ہیں سولہ اوپر کے جبڑے میں سولہ نیچے کے جبڑے میں۔ علماء تجوید نے اس کی چھ قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ ثنایا کے چار دانت ہیں۔ دو سامنے اوپر کے جن کو ثنایا

علیاء اور ان کے مقابل دو نیچے کے جن کو ثنایا مُفلسی کہتے ہیں۔

۲۔ رباعیات کے چار دانت ہیں۔ یعنی ثنایا کے دائیں بائیں دو اوپر اور دو نیچے کے۔

۳۔ انیاب کے بھی چار دانت ہیں رباعیات کے دائیں بائیں دو اوپر اور دو نیچے کے۔

۴۔ ضواجک کی بھی چار داڑھیں ہیں۔ انیاب کے دائیں بائیں دو اوپر اور دو نیچے کی چار داڑھیں۔

۵۔ طواحن کی کل بارہ داڑھیں ہیں یعنی ضواجک کے دائیں بائیں چاروں جانب تین تین داڑھیں۔

۶۔ نواجذ کی چار داڑھیں طواحن کے آخر میں چاروں جانب ایک ایک داڑھ دو اوپر اور دو نیچے۔ ان کو خوب یاد کر لیں۔

سترہ مخارج یہ ہیں

۱۔ پہلا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے اندر خالی جگہ ہے۔ اس سے حروف مدہ یعنی الف۔ واو۔ یا۔ نکلتے ہیں۔ ا۔ و۔ ی۔

۲۔ دوسرا مخرج اقصی حلق ہے اس سے ہمزہ اور ہائے نکلتے

ہیں۔ ۶-۵

۳۔ تیسرا مخرج وسط حلق ہے اس سے عین اور حائکتے ہیں  
ع۔ ح

۴۔ چوتھا مخرج ادنیٰ حلق ہے اس سے عین اور حائکتے ہیں۔  
غ۔ خ

۵۔ پانچواں مخرج زبان کی جڑ کو کوسے کے قریب اوپر کے تالو  
سے لگائیں تو قاف نکلتا ہے۔ ق

۶۔ چھٹا مخرج قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہے۔  
اس سے کاف نکلتا ہے۔ ک

۷۔ ساتواں مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو ہے اس  
سے جیم۔ شین اور یائے غیر مدہ نکلتے ہیں۔ ج۔ ش۔ ی

۸۔ آٹھواں مخرج حافظ لسان یعنی زبان کی کرویٹ اور اوپر  
کی پانچ داڑھوں کی جڑ ہے اس سے ضاد نکلتا ہے ضاد بائیں  
جانب سے آسانی سے نکلتا ہے دائیں طرف سے نکل سکتا  
ہے مگر مشکل سے اور دونوں طرف سے بھی نکل سکتا ہے۔  
بیک وقت مگر بہت مشکل ہے۔

۹۔ نواں مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ حافہ جب ضاحک ناب  
رباعی اور شنیہ کے مسوڑھوں سے لگے تو لام نکلتا ہے۔

۱۰۔ دسواں مخرج زبان کا کنارہ اور ناب رباعی اور ثنیہ کے  
مسوڑھوں سے نون نکلتا ہے۔ ن

۱۱۔ گیارہواں مخرج زبان کی پشت کا سرا، رباعی اور ثنیہ کے  
مسوڑھوں سے را نکلتی ہے۔ ر

۱۲۔ بارہواں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ سے طا،  
دال، تانکٹے ہیں۔ ط۔ د۔ ت

۱۳۔ تیرہواں مخرج زبان کا سرا اور ثنایا علیا کا کنارہ جو  
مسوڑھوں سے ملا ہوا ہے اس سے ظا، زال، ثانکٹے ہیں۔  
ظ۔ ز۔ ث

۱۴۔ چودھواں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ ثنایا  
علیا کے قریب ہونے سے صاد۔ زا۔ سین نکلتے ہیں۔ ص۔  
ز۔ س

۱۵۔ پندرہواں مخرج نیچے کے ہونٹ کی تری والا حصہ اور  
ثنایا علیا کے کنارے سے فا نکلتی ہے۔ ف

۱۶۔ سولہواں مخرج دونوں ہونٹوں سے با، میم اور واؤ نکلتے  
ہیں۔ ب۔ م۔ و۔ با تری سے میم خشکی اور واؤ ہونٹوں  
کے گول کرنے سے ادا ہوتی ہے۔

۱۷۔ سترہواں مخرج خیشوم ناک کا بانسہ یعنی ناک کا پچھلا

نحت حصہ اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔

## اختلاف مخارج

- (۱) امام خلیل نحوی کے نزدیک سترہ مخارج ہیں۔
- (۲) امام سیبویہ نحوی کے نزدیک سولہ مخارج ہیں۔
- (۳) امام فراء نحوی کے نزدیک چودہ مخارج ہیں۔

## صفات

صفات، صفت کی جمع ہے اور صفت کے معنی کیفیت اور حالت کے ہیں جو کہ حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے پُر یا باریک پڑھنا۔ اسی طرح آواز اور سانس کا کہیں جاری رہنا اور کہیں بند ہو جانا وغیرہ وغیرہ اور صفات کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) صفاتِ لازمہ (۲) صفاتِ عارضہ

- (۱) صفاتِ لازمہ ہر حالت میں حرف میں پائی جاتی ہیں۔
- مخارج کی طرح صفاتِ لازمہ کی تعداد بھی سترہ ہے۔ پھر
- صفاتِ لازمہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) صفاتِ لازمہ متضادہ

(۲) صفاتِ لازمہ غیر متضادہ۔

(۱) صفاتِ لازمہ متضادہ کی تعداد دس ہے۔ جن کے پانچ جوڑے ہیں۔ متضادہ کے معنی ایک دوسرے کی ضد کے ہیں اور یہ تمام حروف میں ہر حالت میں پائی جاتی ہیں۔

(۲) صفاتِ لازمہ غیر متضادہ سات ہیں یہ کسی کی ضد نہیں ہیں اور یہ صفات صرف چودہ حروف میں ہر حالت میں پائی جاتی ہیں۔

صفاتِ لازمہ متضادہ

۱۔ ہمیں	اس کی ضد	جر ہے
۲۔ شدت	رہ کی ضد	رخوت ہے
۳۔ استعلاء	" کی ضد	استفال ہے
۴۔ اطباق	" کی ضد	انفتاح ہے
۵۔ ازلاق	" کی ضد	احمات ہے

صفاتِ لازمہ غیر متضادہ

(۱) تَقْلَقُ (۲) صَفِيرُ (۳) لَيْنُ (۴) نَفْسِي (۵) انحراف  
(۶) تَكْرِيه (۷) استطالت



اب صفات لازمہ متضادہ کی سلسلہ وار تعریف کی جاتی ہے۔

(۱) ہمس :-

ہمس کے معنی پستی کے ہیں اس کے دس حروف ہیں جن کا مجموعہ فَحْتَهٗ شَخْصٌ سَكَّتْ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مہموسہ کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی پیدا ہو جاتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے جیسے مِنْ التَّاسِ کاسین اس کی ضد جہر ہے۔

(۲) جہر :-

جہر کے معنی بلندی کے ہیں اس کے انیس حروف ہیں۔ ان کو مجہورہ کہتے ہیں ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اور سانس بند ہو جاتا ہے۔ جیسے



بَاس کا ہمزہ۔

(۳) شدت

شدت کے معنی سختی کے ہیں اس کے آٹھ حروف ہیں جن کا مجموعہ اَجْدُ قَطِّ بَكَّتْ ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں ان کی ادائیگی کے وقت آواز سختی کے ساتھ بند ہو جاتی ہے جیسے مَحِيطٌ کی طا اس کی ضد رخوت ہے۔

(۴) رخوت :-

رخوت کے معنی نرمی کے ہیں۔ اس کے سولہ حروف ہیں۔ ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت آواز نرمی کے ساتھ جاری رہتی ہے جیسے رِفِ الْأَرْضِ کی ضاد۔  
نوٹ :- شدت اور رخوت کی درمیانی صفت کا نام توسط ہے اس کے معنی درمیانی حالت کے ہیں۔ اس کے پانچ حروف ہیں جن کا مجموعہ لِنْ عُمَرُ ہے۔ ان کو متوسطہ کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت نہ تو آواز پوری طرح بند ہوتی ہے اور نہ پوری طرح جاری رہتی ہے جیسے اَلرَّحِيْمِ کا میم اور صفت توسط کسی کی ضد نہیں۔

## (۵) استعلاء :-

استعلاء کے معنی بلندی چاہنا ہے اس کے سات حروف ہیں جن کا مجموعہ **حُصَّ مَنَعَطٍ قِطٌ** ہے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت ہمیشہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے بڑھے جاتے ہیں جیسے **طَالُوْتَ** کی **طا** اور **قَالُوا** کی **قاف** اس کی ضد استفال ہے۔

## (۶) استفال :-

استفال کے معنی نیچے رہنا۔ اس کے بائیس حروف ہیں ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ نیچے کو رہتی ہے اس وجہ سے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔

## (۷) اطباق :-

اطباق کے معنی لپٹنے اور ملنے کے ہیں اس کے چار حروف ہیں جن کا مجموعہ **صَمُضَ طَطُظْ** ہے ان کو حروف مطبقہ کہتے

ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت ہمیشہ زبان کا اکثر حصہ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ٹپھے جاتے ہیں جیسے مَرَصَادُ کا صا اس کی ضد انفتاح ہے۔

### (۸) انفتاح :-

انفتاح کے معنی جدا ہونے کے ہیں۔ اس کے پچیس حروف ہیں۔ ان حروف کو منفترہ کہتے ہیں ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا اکثر حصہ تالو سے جدا رہتا ہے۔ جیسے کَبَعِيدٌ کی دال۔

### (۹) اذلاق :-

اذلاق کے معنی کناروں سے ادا ہونا ہے۔ اس کے چھ حروف ہیں جن کا مجموعہ فَرَمِنْ لُبَّ ان کو حروف مزلقہ کہتے ہیں۔ یہ حروف ہونٹوں اور زبان کے کناروں سے سہولت اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں جیسے مِّنْ کانون اس کی ضد اصمات ہے۔

## (۱۰) اصمات :-

اصمات کے معنی روکنے کے ہیں۔ اور اس کے تئیس حروف ہیں۔ ان حروف کو مصمت کہتے ہیں۔ یہ حروف اپنے مخرج سے جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ جیسے مَنَّوُش کَاشِمِین۔

اب صفات لازمہ غیر متضادہ کی سلسلہ وار تعریف کی جاتی ہے۔

## (۱) قلقلہ :-

قلقلہ کے معنی جنبش کے ہیں۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ قُطْبُ جَدّ ہے۔ ان پانچ حروف کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے۔ وقف کی حالت میں زیادہ سکون کی حالت میں اس سے کم اور حرکت میں بہت ہی کم ہوتی ہے جیسے مَحِیْطٌ ، اَطْعَمَهُمْ ، طَالُوْتَ .

## (۲) صفیر

صفیر کے معنی مثل سیٹی کی آواز کے ہیں۔ اور یہ تین حروف

صاد، زا، سین میں پائی جاتی ہے ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز بغیر تکلف کے مثل سیٹی کے نکلتی ہے جیسے مَرَّصُوصُ کا صاد

### (۳) لین

لین کے معنی نرمی کے ہیں اور یہ دو حروف میں پائی جاتی ہے واؤ ساکن اور یائے ساکن جب کہ ان سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ ان پر اگر حالت وقف میں مد کرنا چاہیں تو نرمی کے ساتھ مد کر سکتے ہیں جیسے حَذَرَ الْمَوْتِ ط مِنْ شَيْءٍ

### (۴) انحراف

انحراف کے معنی پلٹنا اور پھرنا ہے اور یہ دو حروف میں پائی جاتی ہے۔ لام اور را میں۔ لام کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف اور را کے ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ لام کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے جیسے قَوْلٌ کا لام اور عُرْوَدٌ کی را

### (۵) تنفشی

تنفشی کے معنی آواز کا پھیلنا اور یہ صرف شمین میں

پائی جاتی ہے۔ اس کے ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جاتی ہے جیسے مَنْفُوشِ كَاشِينِ

### (۶) تکریر

تکریر کے معنی کسی شے کو بار بار کرنا اور یہ صرف را میں پائی جاتی ہے اس کے ادا کرتے وقت مشابہت تکرار ہوتی ہے۔ حقیقت تکرار نہیں ہوتی۔ اس فرق کو خوب یاد کر لیں مطلب یہ ہے کہ زبان لہا کے مخرج میں مضبوطی سے لگا کر زبان میں لرزہ پیدا کیا جائے۔ حقیقی تکرار بالکل غلط ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے جیسے اَمْرٌ سَلْنَا - نَعْفُوهُ رَحِيمٌ

### (۷) استطالت

استطالت کے معنی ہیں لبائی چاہنا۔ اور یہ صرف ضاد میں پائی جاتی ہے اس کے ادا کرتے وقت مخرج لبہ ہونے کی وجہ سے آواز میں بھی درازی یعنی لبائی پائی جاتی ہے جیسے  
وَلَا الضَّالِّينَ - فِي الْأَرْضِ

نوٹ: صفات لازمہ متضادہ و غیر متضادہ میں فرق یہ ہے

کہ صفات لازمہ متضادہ کے مقابل کی صفت کا نام متعین ہے اور یہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات لازمہ غیر متضادہ کے مقابل میں کسی صفت کا کوئی نام متعین نہیں اور یہ تمام حروف میں نہیں پائی جاتیں بلکہ صرف چودہ حروف میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ ب ج و ط ق ز س ص ش ض ل ر و ی

### صفات عارضہ :-

صفات عارضہ بعض حالتوں میں پائی جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں نہیں پائی جاتیں۔ یہ صفات جن حروف میں پائی جاتی ہیں ان کا مجموعہ ہے **اَوْ رِيْمَلَانِ** اور وہ یہ ہیں۔

(۱) نفخیم (۲) ترقیق (۳) ادغام (۴) انقلاب (۵) اخفاء

(۶) غنہ (۷) مد (۸) تسہیل (۹) ابدال (۱۰) حذف

نوٹ: ان میں سے بعض صفات کا اس سے پہلے ذکر

ہو چکا ہے اور بعض کا اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔

## نواں درس

### ادغام کے بیان میں

ادغام کی تعریف یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر حرف مشدد کی طرح ادا کیا جائے جیسے قَدْ تَبَيَّنَ دال کا تا میں ادغام ہوا پہلے حرف کو مد غم اور دوسرے کو مد غم فیہ کہتے ہیں دونوں کے ملانے کا نام ادغام ہے مد غم کے سکون اور حرکت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ادغامِ صغیر (۲) ادغامِ کبیر

(۱) ادغامِ صغیر

پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام کرنا ضروری ہے جیسے اذْظَلُّوْا اس کو ادغامِ صغیر کہتے ہیں۔

(۲) ادغامِ کبیر

پہلا حرف اور دوسرا حرف دونوں متحرک ہوں تو پہلے حرف کو



ساکن کر کے دوسرے حرف میں ملا کر ادغام کرنا ضروری ہے۔ اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔

ادغام کبیر کی روایت حفص کے اعتبار سے پانچ مثالیں ہیں۔

- (۱) اَتَّحَّجُوْنِيْ اِسْلِمِیْنَ اَتَّحَّجُوْنِيْ تَحَّا۔ زہ انعام، ۹ رکو  
 (۲) تَأْمُرُوْنِيْ تَأْمُرُوْنِيْ " " زمر، " "  
 (۳) مَكَّنِيْ مَكَّنِيْ " " کہف، " "  
 (۴) نَعِمَ نَعْمَ مَا " " بقرہ، نساء، ۸، ۳۷  
 (۵) لَا تَأْمَنَّا لَا تَأْمَنَّا " " یوسف، ۲ "

### فائدہ

پہلی چار مثالوں میں ادغام ہی ہوتا ہے اور پانچویں مثال یعنی لَا تَأْمَنَّا میں ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں لیکن ادغام کے ساتھ اشمام اور اظہار کے ساتھ روم ضروری ہے۔

نوٹ: اشمام میں ہونٹوں سے ضمہ کا اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ صرف ضمہ میں ہوتا ہے اور روم میں حرف کی تہائی حرکت کو ایسی ہلکی آواز سے ادا کیا جاتا ہے جس سے قریب والا سن سکے۔ اور یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔

کیفیت مگے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں۔

- (۱) ادغام تام (۲) ادغام ناقص

## (۱) ادغام تام

میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی جیسے قَالَتْ طَائِفَةٌ  
میں تا کا ط میں ادغام ہوا۔

## (۲) ادغام ناقص

میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہتی ہے جیسے مَنْ يَقُولُ  
نون کی صفت غُنَّ باقی ہے  
مدغم اور مدغم فیہ کے مخارج و صفات کے اعتبار سے ادغام کی  
تین قسمیں ہیں۔ (۱) ادغام مثلین (۲) ادغام متجانسین  
(۳) ادغام متقاربین۔

## ادغام مثلین

(۱) ایک ہی مخرج اور ایک ہی صفت کے دو حروف اکٹھے  
ہو جائیں جیسے دال، دال اور ذال وغیرہ ان میں پہلا  
ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام کرنا ضروری ہے۔ جیسے  
فَدَّخَلُوا، اِذْ ذَهَبَ۔ وغیرہ اور یہ ادغام تام ہی ہوتا ہے۔

## (۲) ادغام متجانسین

ایک مخرج کے دو حرف اکٹھے ہو جائیں جن کی پوری صفات ایک نہ ہوں۔ جیسے اذ ظَلَمُوا تو ادغام ضروری ہے اور ادغام متجانسین تام بھی اور ناقص بھی ادغام تام کی چھ مثالیں ہیں

(۱) قَدْ ثَبَّيْنُ (۲) قَالَتْ طَائِفَةٌ (۳) اذ ظَلَمُوا  
 (۴) اَنْقَلَبْتُ دَعَوَا لِّلّٰہِ (۵) یٰلَیْہٖ ذٰلِکَ (۶) اِرْکَبْ مَعَنَا  
 پہلی چار مثالوں میں تو صرف ادغام ہی ہوگا اور آخری دو مثالوں میں اظہار ثابت ہے اور ادغام متجانسین ناقص کی مثالیں صرف چار کلمات میں ہی پائی جاتی ہیں اور وہ یہ

ہیں۔  
 (۱) بَسَطْتُ، (۲) اَحْطَطْتُ (۳) فَرَطْتُ (۴) مَا فَرَّطْتُمْ  
 چاروں مثالوں کو بغیر قلفد کے صفت اطباق کو باقی رکھ کر پڑھا جائے گا۔

## (۳) ادغام متقاربین

دو حرف قریب المخرج یا قریب الصفات اکٹھے ہو جائیں جن میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام ضروری ہے جیسے اَلَمْ نَخْلُقْکُمْ۔ وَلٰکِنْ لَا۔ ادغام متقاربین میں تام اور ناقص دونوں ہیں۔ قرآن مجید میں کل سات مثالیں ہیں۔

تام کی مثالیں وَ لَکِن لَّا مِنْ رَبِّہِمۡۚ قُلْ رَّبُّکُمۡ

ناقص کی مثالیں مَنْ یَقُولُ - مِنْ وَاٰلِ-

مختلف فیہ کی مثال عَنۢ مَّا -

خلف کی مثال اَلَمْ یَخْلُقْکُمْ

خلف کا معنی ہے اختلاف اسی لیے اس آخری مثال میں بھی ادغام تام اور ناقص میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تام اور بعض کے نزدیک ناقص ہے اور دونوں طرح جائز ہے مگر ادغام تام اولیٰ ہے صرف حلقی کا اپنے ہم مثل میں بھی ادغام کیا جائے گا۔ جیسے یُوَجِّہُہٗ

موایع ادغام

یعنی وہ مثالیں جہاں ادغام غیر جائز ہے۔

- (۱) یائے مدہ کا غیر مدہ میں جیسے - فِیْ یَوْمٍ -
- (۲) واو مدہ کا غیر مدہ میں جیسے - قَالُوا وَمَا لَنَا -
- (۳) حروف حلقی کا اپنے ہم مخرج میں جیسے - فَاصْفَحْ عَنْهُمْ -
- (۴) حروف حلقی کا اپنے قریب المخرج میں جیسے فَسَبِّحْهُ -
- (۵) حروف حلقی کا غیر معروف حلقی میں جیسے لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا -
- ادغام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان مثالوں میں ادغام کیا جائے تو پھر ثقل پیدا ہو جائے گا جبکہ ادغام ثقل کو دور کرنے کے لئے ہی کیا جاتا ہے۔ جب مقصد ہی فوت ہو گیا تو کیا فائدہ۔

## لام تعریف کے دو قاعدے ہیں

- (۱) ادغام (۲) اظہار
- علماء کی اصطلاح میں چودہ حروف قمری ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے اَبِغْ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ اور ان کے علاوہ باقی چودہ حروف یعنی ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن حروف شمسی کہلاتے ہیں۔ اگر لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے کوئی

حرف آجائے تو لام تعریف کا اظہار کیا جائے گا جیسے

الْقَمَرُ - الْحَمْدُ - الْمُسْتَقِيمُ - وَغَيْرُهُ -

اور اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف

آجائے تو ادغام کیا جائے گا جیسے - الشَّمْسُ - الرَّحْمَنُ -  
التَّائِبُ - وَغَيْرُهُ

فائدہ :- الف اس لئے شمار نہیں کیا کہ لام تعریف

کے بعد الف نہیں آسکتا۔

لام فعل کا حکم :- لام فعل کا تو مطلقاً اظہار ہی ہوتا

ہے۔ جیسے قُلْ نَعَمْ - قُلْ تَعَالَوْا - فَالْقَمَّةُ - وَجَعَلْنَا - قُلْنَا أَمْرًا سَلْنَا

لیکن ایسے لام کے بعد را یا لام آجائے تو پھر ادغام واجب

ہے جیسے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ - قُلْ تَرَابٌ - وَغَيْرُهُ

## دسواں درس

مذات، وقف، سکتہ اور قطع کے بیان میں

(۱) مذات

بحث مذات میں چند بیان ہیں جو ہم بالترتیب بیان کرتے ہیں تاکہ مبتدی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

حرف مذہ :- حروف مدہ تین ہیں (۱) الف مذہ (۲) واؤ مذہ (۳) یائے مذہ

(۱) الف مذہ :- کی تعریف یہ ہے کہ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور الف کے پہلے حرف پز زبر ہوتی ہے۔ الف ہمیشہ مذہ ہی ہوتا ہے جیسے قَالَ - كَانَ - مَا بَانَ -

(۲) واؤ مذہ :- واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہوتی ہے جیسے قَوْلُوا - كُونُوا۔

(۳) یائے مدہ :-

یائے ساکن سے پہلے حرف کی زیر ہوتی ہے جیسے فِيهِ - قِيلَ -  
تینوں حروفِ مدہ کی اکٹھی مثال یہ ہے - نُوحِيهَا

حروف لین :-

حروف لین دو ہیں (۱) واو لین (۲) یائے لین  
واو لین اور یائے لین کی تعریف یہ ہے کہ دونوں ساکن  
ہوں اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہو جیسے  
حَذَرَ الْمَوْتِ مِنْ شَيْءٍ تو ان کو واو لین اور یائے لین کہتے  
ہیں۔ اگر ان پر حرکت ہو تو پھر ان کو واو متحرک اور یائے  
متحرک کہتے ہیں جیسے اَوِّالدَيْنِ - يَوَدُّ - يُعْتَرُّ

مد کے درجات :-

مد کے تین درجے ہیں (۱) قصر (۲) توسط (۳) طول

قصر :-

حرف مدہ یا لین کو ایک الف یعنی دو حرکتوں کے برابر لبا  
کرنے کو کہتے ہیں اس مقدار کا اندازہ یہ ہے کہ درمیانی



طور پر کھلی ہوئی انگلی کو بند اور بند انگلی کو کھولنے میں جتنی  
دیر لگتی ہے یہ ایک اندازہ ہے اصل دارودار کا کل استاذ کے  
سننے پر ہے۔

توسط :-

حروف مدہ یا لین دو یا تین الف تک کھینچنے کو توسط کہتے ہیں۔

طول :-

حروف مدہ یا لین تین الف پانچ الف تک کھینچنے کو طول کہتے  
ہیں۔

مد کی تعریف :-

حروف مدہ اور لین میں آواز کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنے کو مد  
کہتے ہیں مدہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مذ اصلی (۲) مذ فرعی

- مذ اصلی

مذ اصلی کو ذاتی اور طبعی بھی کہتے ہیں اس کی مقدار ایک

الف کے برابر ہے مد اصلی کی تعریف یہ ہے کہ ایک الف سے کم بھی نہ ہو اور زائد بھی نہ ہو اور کسی سبب پر موقوف بھی نہ ہو۔ جیسے نُوحِيهَا

مد فرعی :-

مد فرعی کی تعریف یہ ہے کہ الف سے زائد کھینچی جائے اور حرف مد کے بعد کوئی سبب پایا جائے اور مد فرعی کے دو سبب ہیں۔ (۱) ہمزہ (۲) سکون اور پھر سکون کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) سکون لازمی (۲) سکون عارضی

(۱) سکون لازمی :-

جو حالت وقف اور وصل میں ساکن ہی پڑھا جائے جیسے  
الْعَلَمِیْنَ میں لام کا سکون اصلی ہے۔

(۲) سکون عارضی :-

جو حالت وقف میں کلمہ کا آخری حرف ساکن پڑھا جائے  
جیسے رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، کَانَ عَلَیْهِ حَکِیْمٌ  
کا میم اور قَدْرِیْ کی را وغیرہ

اور اگر وقف نہ کریں تو کلمے کے آخری حرف کی حرکت پڑھی جائے گی جیسے الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ، ضِدْبُ یَوْمِ الدِّیْنِ میں رحیم کی میم کی حرکت پڑھی جائے گی۔

مَدِّ فَرَعِی کی اجمالی چار قسمیں ہیں :-

(۱) مَدِّ مُتَّصِل (۲) مَدِّ مُنْفَصِل (۳) مَدِّ لَازِم (۴) مَدِّ عَارِض  
مَدِّ فَرَعِی کی تفصیلی نو قسمیں ہیں۔

(۱) مَدِّ مُتَّصِل (۲) مَدِّ مُنْفَصِل (۳) مَدِّ لَازِم کَلْمِی مُخَفَّف

(۴) مَدِّ لَازِم کَلْمِی مُشْتَقِل (۵) مَدِّ لَازِم حَرْفِی مُخَفَّف (۶) مَدِّ لَازِم حَرْفِی  
مُشْتَقِل (۷) مَدِّ لَازِم لَیْن (۸) مَدِّ عَارِض و تَقْفِی (۹) مَدِّ عَارِض لَیْن -

مَدِّ مُتَّصِل :-

ایک کلمہ میں حرف مدہ کے بعد ہمزہ آجائے تو اس کو متصل کہتے ہیں جیسے اُولَیِّکَ ، سُوْعٌ ، سَبِیْتٌ  
اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔

مَدِّ مُنْفَصِل :-

حرف مدہ کلمہ کے آخر میں ہو اور ہمزہ دوسرے کلمہ کے

شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں جیسے بِمَا أُزِلَ  
 فِي أَنْفُسِكُمْ، قَالُوا آمَنَّا ان دونوں کی  
 مقدار دو الف ڈھائی الف اور چار الف تک ہے اور  
 منفصل میں قصر بھی جائز ہے اس لئے اس کو مد جائز بھی  
 کہتے ہیں۔

مد لازم کلمی مخفف :-

حرف مد کے بعد اسی کلمہ میں سکون لازمی ہو جیسے اَلْأَمْنُ

مد لازم کلمی مشغل :-

حرف مد کے بعد اسی کلمہ میں حرف مشدّد ہو جیسے دَابَّةٌ، اَتَّحَابُونِي

مد لازم حرفی مشغل :-

حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو جیسے اَلْحَرَامِیْنَ لَامِیْ

مد لازم حرفی مخفف :-

حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون ہو جیسے اَلْحَرَامِیْنَ سِیْمِیْ

مد لازم کی چاروں قسموں میں طول ہی طول ہوتا ہے اور اس

کی مقدار تین یا پانچ الف تک ہے۔

مذ لازم لین :-

حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون لازمی ہو جیسے  
سُورَةُ مَرْيَمَ فِي كَهَيِّصَتِ اور سُورَةُ شُورَىٰ فِي  
حَمِصَقِ كَاعِيْنَ اس کو مذ لازم لین کہتے ہیں قرآن مجید  
میں اس کی یہی دو مثالیں ہیں مذ لازم لین میں طول اولیٰ  
توسط جائز اور قصر ضعیف ہے۔

مذ عارض و قفى :-

حرف مذہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو  
جیسے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَيْشَعْرُونَ هَامُونَ  
اس کی مقدار میں پہلا درجہ طول ، دوسرا توسط اور تیسرا  
قصر کا ہے۔

مذ عارض لین

یعنی حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ  
سے جیسے حَذْرًا مَوْتٍ مِنْ شَيْءٍ اس کو مذ عارض لین

کہتے ہیں اس میں پہلا درجہ قصر دوسرا توسط تیسرا طول کا ہے۔

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ بِالْحِسَابِ

مَد قوی اور مَد ضعیف:

(۱) مَد قوی: مَد متصل مَد لازم کی چاروں قسمیں مَد لازم لین مَد عارض و قفی یہ سب قوی ہیں۔

(۲) مَد ضعیف: مَد منفصل: مَد عارض لین یہ ضعیف ہیں۔

وقف:-

وقف کے معنی بہیں ٹھہرنا اور فن تجوید میں جس کلمہ کے آخری حرف پر وقف کیا جائے۔ اگر وہ متحرک ہے تو اس کو ساکن کر کے سانس اور آواز کو بند کر دینے کو وقف کہتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقف کی دو قسمیں ہیں (۱) کیفیت وقف (۲) محل وقف

(۱) کیفیت وقف:-

یعنی کلمہ کے آخری حرف پر کسی طرح وقف کیا جائے پھر کیفیت وقف کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) وقف بالا ساکن

## (۲) وقف بالرزوم (۳) وقف بالا شام

(۱) وقف بالا ساکن :-

یعنی کلمہ کے آخری حرف کو بالکل ساکن کر دیا جائے اور سانس اور آواز کو بند کر دیا جائے اس کو بالا ساکن کہتے ہیں۔ اور یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے جیسے رَبِّ الْعَالَمِينَ ۰  
 يَوْمِ الدِّينِ ۰ نَسْتَعِينُ ۰  
 وقف بالرزوم :-

جس کلمہ پر روم کے ساتھ وقف کرنا چاہیں تو اس کلمہ کے آخری حرف کی تہائی حرکت کو ایسی ہلکی آواز سے ادا کیا جائے کہ قریب والا سن سکے اس کو وقف بالرزوم کہتے ہیں اور یہ زبر اور حرکت عارضی پر نہیں ہوتا زیر اور پیش میں ہوتا ہے جیسے يَوْمِ الدِّينِ - نَسْتَعِينُ ۰ سَمَوَاتٍ عَلَيْهِمْ ۰  
 وقف بالا شام :-

جس کلمہ پر اشام کے ساتھ وقف کرنا چاہیں تو اس کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کا اشارہ کیا جائے۔ تو اس کو وقف بالا شام کہتے ہیں اور یہ صرف ضمہ

میں ہوتا ہے جیسے نَسْتَعِينُ . قَدِيرٌ . اور اِشْتَامُ زَبْرٌ زَبْرٌ  
اور حرکت عارضی پر نہیں ہوتا۔

## محل وقف :-

محل وقف کے اعتبار سے وقف کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) وقف تام (۲) وقف کافی (۳) وقف حسن (۴) وقف قبیح

## وقف تام :-

جس کلمہ پر وقف کیا جائے اس کو بعد والے کلمہ سے لفظی  
اور معنوی تعلق نہ ہو اس کو وقف تام کہتے ہیں جیسے **أُولَئِكَ**  
**هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ۔

(۲) وقف کافی :-

جس کلمہ پر وقف کیا جائے اس کو بعد والے کلمہ سے تعلق  
معنوی ہو لفظی تعلق نہ ہو تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں۔  
جیسے **يُوقِنُونَ** ۔ **لَا يُؤْمِنُونَ** ۔ وقف تام اور وقف  
کافی دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ وقف کرنے کے بعد  
لوٹانے کی ضرورت نہیں بلکہ بعد والے کلمہ سے ابتدا کر  
کے پڑھے۔



### (۳) وقف حسن :-

جس کلمہ پر وقف کیا ہے اس کو بعد والے کلمہ سے تعلق لفظی ہو جیسے الْحَمْدُ لِلَّهِ پر وقف کیا جائے تو ما قبل سے لوٹانا چاہیے ما بعد سے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر آیت پر وقف کیا جائے جیسے رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ پر وقف کیا جائے تو اس کے بعد آگے سے شروع کرنا جائز ہے اس کو وقف حسن کہتے ہیں۔

### وقف قبیح :-

ایسے کلمہ پر مجبوراً وقف کیا جائے کہ جس کا ما بعد سے تعلق لفظی اور معنوی دونوں طرح ہو جیسے الْحَمْدُ يَا مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے مُلِكِ پر وقف کیا گیا تو اس کو وقف قبیح کہتے ہیں اس کو ما قبل سے لوٹانا ضروری ہے۔

### وقف سکتہ اور قطع میں فرق :-

سکتہ وقف کی طرح ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ سکتہ میں کلمہ کا آخری حرف ساکن کر کے تھوڑی دیر کے لیے آواز بند

کر کے سانس جاری رکھتے ہوئے فوراً پڑھنا شروع کیا جائے۔ اور روایت حفص میں چار سکتے ہیں۔

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| (۱) عَوْجَاہ کے الف پر سکتہ    | سورہ کہف ع ۱    |
| (۲) مَرْوَدِنَا کے الف پر سکتہ | سورہ یس ع ۴     |
| (۳) مَرْوَاتِ کے نون پر سکتہ   | سورہ قیامہ ع ۱  |
| (۴) بَلْرَانَ کے لام پر سکتہ   | سورہ مطففین ع ۱ |

قطع :-

آیت پر ٹھہر کر تلاوت جاری رکھنے کو وقف کہتے ہیں اور حسب معمول تلاوت کے اختتام پہ آخری آیت پر ٹھہرنے کو قطع کہتے ہیں۔

## گیارہواں درس

اجتماع ساکنین و ہمزہ اور بائے ضمیر کے بیان میں

(۱) اجتماع ساکنین :-

دو ساکن حرف ایک جگہ جمع ہوں تو ان کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) اجتماع ساکنین علیٰ حذہ (۲) اجتماع ساکنین علیٰ غیر حذہ۔

(۱) اجتماع ساکنین علیٰ حذہ :-

یہ ہے کہ دو ساکن حرف ایک کلمہ میں جمع ہوں یا کسی حرف مقطعات میں جمع ہوں ان میں پہلا ساکن حرف مذہ ہو جیسے **الَّذِينَ دَابَّوْا ق ن** تو پہلے ساکن مذہ کو خوب کھینچ کر پڑھنا چاہئے اور یہ وقف و وصل دونوں حالتوں میں جائز ہے۔

(۲) اجتماع ساکنین علیٰ غیر حذہ :-

یہ غیر جائز ہے البتہ وقف میں جائز ہے اور اس کی تعریف :-

ہے کہ علیٰ حذیہ کی دونوں شرطوں سے پہلی شرط نہ ہو یا  
دونوں شرطیں نہ ہوں اس کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) دو ساکن دو کلموں میں ہوں اور پہلا حرف مدہ ہو تو حرف  
مدہ کو گرا کر پڑھیں گے جیسے **وَاسْتَبَقَا الْبَابَ**، **قَالُوا لَنْ نَرِي الْأَرْضَ**

(۲) دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہوں مگر پہلا ساکن مدہ نہ ہو۔ اس  
کا حکم یہ ہے کہ حالت وقف میں دونوں ساکن قائم رکھنے جائز ہیں  
اور حالت وصل میں جائز نہیں بلکہ دوسرے ساکن کی وصل میں  
حرکت پڑھی جائے گی۔ جیسے

(بِكَرٍّ - الْحُرْثِ)

(۳) من جارہ کانون ہو یا آل عمران میں **الْمِيمِ** کا میم ہو۔ ان کو حرکت  
دیتے وقت فتح یعنی زبردی جائے گی۔ جیسے

**وَمِنَ النَّاسِ - مِنَ اللَّهِ - اللَّهُ**

پہلا ساکن میم جمع یا واو لین فعل جمع کا ہو اس کو ضمہ یعنی  
پیش دی جائے گی جیسے **عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ - فَتَمَتُّوا مَوْتًا**

**وَرَاءَ وَالْعَذَابِ** ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ساکن  
ہو تو اس کو کسرہ یعنی زیر دی جائے گی اور تنوین ابھی اس  
قلمدہ میں شامل ہے۔ جیسے **قُلِ الْحَقُّ - أَوِ الْوَالِدَيْنِ**

**قَدِيرِ الَّذِي سَيِّبَانِ السَّمَاءِ** اور **بِسْمِ الْفُتُوقِ**

بخو کہ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں ہے۔ لام سے

پہلے اور بعد ذالہا ہمزه حذف کیا جائے گا اور اسی قاعدہ کے مطابق لام کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی۔  
(وَ اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِالصَّٰلِحِيْنَ)

ہمزہ کے بیان میں :-

عربی پڑھے بغیر مکمل طور پر ہمزه کی پہچان نہیں ہو سکتی صرف چند ضروری قاعدے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ابتدائی طلباء کے لئے آسانی ہو۔

ہمزہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ہمزه قطعی (۲) ہمزه وصلی

ہمزہ قطعی :-

ہمزہ قطعی وہ ہے جو ہر حال میں ثابت رہے خواہ ابتداء میں ہو یا دو کلموں میں ہو جیسے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ  
الَّذِيْنَ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ۔  
ہمزہ وصلی :-

ہمزہ وصلی ابتداء اور اعادہ کی حالت میں پڑھا جاتا ہے جیسے  
الْحَمْدُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ - اَسْجُدْ وَا اور ما قبل یعنی پہلے حرف  
سے ملا کر پڑھنے کی حالت میں حذف ہو جاتا ہے جیسے

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ۔

نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا - لِلْمَلٰئِكَةِ اَسْجُدْ وَا۔

ہمزہ قطعی اور وصلی کے اعتبار سے چار قاعدے ہیں۔

(۱) تحقیق (۲) تسہیل (۳) ابدال (۴) حذف

تحقیق :-

دو ہمزے قطعی ایک کلمہ میں یا دو کلموں میں جمع ہوں تو خوب صاف طور سے پڑھے جائیں گے جیسے **ءَاَنْذَرْتَهُمْ**  
**هُوَ لَآءِ اِنْ كُنْتُمْ**  
 تسہیل :-

ہمزہ کو الف اور ہمزہ کی درمیانی حالت میں ادا کرنے کو تسہیل کہتے ہیں اور سورہ حم سجدہ کے آخر میں جو **ءَاَنْجَحِيْكُمْ** ہے اس کے دوسرے ہمزہ کو نرمی سے ادا کرنا ضروری ہے صرف اس جگہ روایت حفص میں تسہیل واجب ہے۔

ابدال :-

ہمزہ وصلی کو الف سے بدل کر پڑھنا قرآن مجید میں اس کی چھ مثالیں پائی جاتی ہیں۔

دو جگہ سورہ یونس میں جیسے **اَلَاۤءِ اِنْ**

دو جگہ سورہ انعام میں جیسے **عَالَمٌ كَرِيمٌ**۔  
 دو جگہ **عَالَمٌ** ایک سورہ یونس اور دوسرا سورہ نمل میں ان  
 کلمات میں تسہیل بھی ہے مگر ابدال اولیٰ ہے۔

حذف:-

پہلا ہمزه قطعی مفتوح اور دوسرا ہمزه وصلی مکسور ہو تو ہمزه  
 وصلی حذف ہو جائے گا جیسے **اِسْتَكْبَرْتَ** کو **اَسْتَكْبَرْتَ**  
 اور **اِصْطَفَى الْبَنَاتِ** کو **اَصْطَفَى الْبَنَاتِ**  
 پڑھیں گے۔

## حرکت کے موافق ابدال کی مثالیں

جب دو ہمزه جمع ہوں تو ان میں پہلا متحرک اور دوسرا ساکن  
 ہو تو ہمزه ساکنہ کو پہلے ہمزه کی حرکت کے موافق حرف علت  
 سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے **اَمْنُوْا** کو **اِمْنُوْا**۔ **اِمْمَانًا** کو  
**اِیْمَانًا**۔ **اَتْمِنُ** کو **اُتْمِنُ** پڑھا جائے گا۔  
 (۲) ہمزه وصلی کی اعراب کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔  
 (۱) مفتوح (۲) مکسور (۳) مضموم

## (۱) مفتوح:-

ہمزہ وصلی لام تعریف سے پہلے مفتوح پڑھا جاتا ہے جیسے  
 الرَّحْمَنُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْمُسْتَقِيمِ وَغَيْرِهِ  
 (۲) مکسور:-

اگر بغیر لام تعریف کے کسی اسم کا ہے تو مکسور پڑھا جائے گا  
 اس کی مثالیں قرآن مجید میں کل سات ہیں اور وہ یہ ہیں۔  
 ۱۔ اِسْمٌ ۲۔ اِبْنٌ ۳۔ اِبْنَتٌ ۴۔ اِمْرَةٌ ۵۔ اِمْرَةٌ ۶۔ اِنْتِنِ ، اِنْتِنِ  
 (۳) مضموم:-

اگر ہمزہ وصلی سمیت فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو اور اس  
 حرف کا ضمہ اصلی ہو تو ہمزہ وصلی کو ضمہ دے کر پڑھیں گے  
 جیسے اَسْرَجُدُوا ، اُدْخُلُوا ۔

نوٹ: اگر فعل کا تیسرا حرف مفتوح یا مکسور یا عارضی ضمہ  
 والا ہو تو ہمزہ وصلی کو کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ جیسے اِذْهَبْ  
 اِرْجِعْ ۔ اِمْسُوا ۔ اِتَّقُوا ۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ  
 ہا:-

ہاکی دو قسمیں ہیں (۱) ہائے ضمیر (۲) ہائے سکتہ



## ہائے ضمیر

ہائے ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے جیسے 'یعنی اس کا جیسے مالہ' اس کا مال ہائے ضمیر، مکسور، مضموم اور کبھی، ساکن بھی ہوتی ہے لیکن مفتوح نہیں ہوتی کبھی زیر کو کھینچ کر یا بنا دیا جاتا ہے جیسے یہ اور کبھی پیش کو کھینچ کر واؤ بنا دیا جاتا ہے جیسے لہ اور اس کو کھینچنے کو عربی میں صلہ کہتے ہیں۔

(۱) ہائے ضمیر سے پہلے حرف کی زیر ہو یا ہائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور پڑھی جائے گی۔ جیسے **بِهَ فِیْہِ** مگر پانچ جگہ اس قاعدہ کے خلاف پڑھی جائے گی۔

دو جگہ مضموم: (۱) **اُنْسَانِیْہِ** کہف ۹۷ (۲) **عَلِیْہِ اللّٰہِ** فتح ۱  
تین جگہ ساکن:

(۱) **اَرَجِبْہُ** اعراف ۱۲، **اَرَجِبْہُ** شعراء ۳، **فَالْقِہُ** نحل ۲  
اور ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو اور نہ یائے ساکنہ ہو تو ہائے مضموم پڑھی جائے گی جیسے **نَزَّلَہُ**، **رَسُوْلُہُ** - **اَمْرَسِلْہُ**۔

(۲) اور جب ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد حرف متحرک ہو تو پھر ہائے ضمیر اگر مکسور ہے تو یا کے ساتھ کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ جیسے **کُتِبَہُ رَسُوْلِہُ** اگر مضموم ہے تو واؤ کے ساتھ کھینچ کر پڑھی جائے گی جیسے **فَاِنَّہُ نَزَّلَہُ اَمْرُہُ** اس کو

اشباع اور صلہ کتے ہیں مگر یُضَنُّ لَكُمْ زُمْرَعٌ کی با بغیر کھینچے  
 پڑھی جائے گی اور اگر ہائے ضمیر سے پہلے یا بعد حرف  
 ساکن ہو تو پھر بغیر کھینچے پڑھی جائے گی جیسے وَالْيَدِ  
 الْمَصِيرُ وَيَعْلَمُ الْكُتُبَ مِنْهُ أَخَاهُ۔ اس کو قصر کہتے  
 ہیں مگر ایک جگہ فِيهِ مَهَانًا (فوقان ۷) کی با کھینچ کر پڑھی  
 جائے گی۔

ہائے سکتے :-

ہائے ضمیر کی طرح کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے  
 لئے ہائے سکتے لائی جاتی ہے اور یہ صرف ساکن ہی ہوتی  
 ہے۔ حالتِ وقف ہو یا وصل قرآن مجید میں ۹ جگہ واقع  
 ہوتی ہے۔ (۱) لَمْ يَتَسَنَّهٗ بَعْرَهٗ (۲) فَبِهَذَا هُمْ اُقْتَدَوْا (انعام)  
 (۳) كِتَابِيَهٗ (دوجہ) (۴) حِسَابِيَهٗ (۵) مَالِيَهٗ (۶) سُلْطَانِيَهٗ  
 :- چھ کلمات سورہ احقاف میں ہیں (۹) مَا هِيَ (قارع میں)

تنبیہ :- نَفَقَةٌ كَثِيرًا سُوْرَةُ هُوْدٍ فَوَاكِهِ وَهَمَّ  
 سورہ مومنین اور سورہ صفت میں لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ عَنَّا مِنْ اَنْ  
 سب میں صلہ نہیں ہوگا کیونکہ با ضمیر کی نہیں ہے بلکہ نفس  
 کلمہ کی ہے۔

(وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

## بارہواں درس

کلمہ مقطوع و موصول و تا اور رسم الخط اور فوائد ضروریہ کے  
بیان میں

(۱) مقطوع :- ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے جدا لکھا  
ہوا ہو جیسے فِي مَآءٍ ، اَيْنَ مَآءٍ - اَنْ لَا تَعْبُدُوْا۔

موصول :- ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے ملا ہوا لکھا  
ہو۔ جیسے فِيمَا - اَيْنَمَا - اَلَّا تَعْبُدُوْا۔

کلمہ موصولہ اور غیر موصولہ کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ  
وقف رسم خط کے تابع ہوتا ہے۔ مقطوع یا غیر موصول  
کلمات میں ضرورت کے وقت فی اور ما دونوں پر وقف جائز  
ہے اور موصول کلمات میں آخری حرف یعنی ما پر وقف کیا  
جائے گا فی پر وقف جائز نہیں۔

تا کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) تائے مدوّرہ (۲) تائے مطوّل

تائے مدوّرہ :- یعنی گول تا جو کہ حالت وقف میں ہا

پڑھی جائے گی۔ رَحْمَةً وَالْآخِرَةُ ط

تائے مطولہ :- یعنی لمبی تا جو کہ حالت وقف میں تا  
ہی پڑھی جائے گی۔ جیسے بَيِّنَاتٍ ط حَسَنَاتٍ ط

رسم النخط :- وہ کلمات جو رسم النخط کے موافق نہیں  
پڑھے جاتے۔ قرآن مجید میں پانچ جگہ لام کے بعد الف لکھا  
ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔

(۱) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحْتَبِرُونَ (سورہ آل عمران ع ۲) وَلَا أَوْصَعُوا سورہ توبہ ع  
(۳) أَوْلَا أَدْبَحْتَهُ (سورہ نعل ع ۴) لَا إِلَهَ إِلَّا الْحَيُّم (سورہ صافات ع ۲)  
(۵) لَا أَنْتُمْ سورہ حشر ع ان کلمات کو خوب یاد کر لیں۔  
مندرجہ ذیل کلمات میں بھی الف لکھا ہوا ہے لیکن حالت  
وقف اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔

(۱) أَوْ لَعِفُوا سورہ بقرہ ع ۱۹ (۲) أَنْ تَبُوعَا سورہ مائدہ ع  
(۳) لَتَسْلُكُوا سورہ دعد ع (۴) لَنْ تَدْعُوا سورہ کہف ع  
(۵) لَيَرْبُوا سورہ روم ع (۶) لَيَسْبِكُوا  
(۷) قَبَلُوا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم (۸) تَمُودًا چار جگہ ہود، ذوقن، حکوت  
ادبجیم میں (۹) قَوَابِرًا دوسرا سورہ دھر میں ع  
(۱۰) أَفَاتِنَ أَنْبِيَاءِ آلِ عِمْرَانَ میں (۱۱) لَشَايَ كَهْف

وہ کلمات جنہیں حالتِ وقف میں وقف کے تابع ہونے کی وجہ سے الف پڑھا جائے گا اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔

(۱) اَنَا جس جگہ آئے (۲) لَكِنَّا سورہ کف میں  
(۳) الظُّنُونَا (۴) الرُّسُولَا (۵) التَّبِيلَا یہ تینوں سورہ  
احزاب میں ہیں (۶) پہلاقوا رِبْرِيَا (۷) سَيَلَسِيَا یہ دونوں  
سورہ دہر میں ہیں لیکن سَلَسِيَا میں اِفِيْر الف کے وقف  
کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے سَلَسِيَلٌ۔

حروفِ علت کے محذوف اور اثبات کی مثالیں :-

(۱) حروفِ علت جب کلمہ کے آخر میں مرسوم یعنی لکھا ہوا  
ہو تو وقف میں پڑھا جائے گا جیسے **وَاسْتَبَقَا**۔ **وَاقِيمُوا**۔ **وَلَا تَسْتَقِي**۔  
اور وصل میں اجتماع ساکنین علیٰ غیرِ حدّہ کی وجہ سے  
حذف ہو جاتا ہے جیسے **وَاسْتَبَقَا الْبَابَ**۔ **وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ**۔  
**وَلَا تَسْتَقِي الْحَرْثَ**۔

(۲) اگر حرفِ علت غیر مرسوم یعنی لکھا ہوا نہ ہو تو وقف  
میں بھی محذوف ہوگا۔ خواہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہو یا  
تخفیف رسم کی وجہ سے۔

الف مخذوف کی مثالیں :-

(۱) آيَةُ الْمُؤْمِنِينَ سورة نور ع ۴ اصل میں آيَةُ الْمُؤْمِنِينَ تھائی

(۲) آيَةُ الشَّجَرِ سورة زحرف ع ۵ " آيَةُ الشَّجَرِ "

(۳) آيَةُ الثَّقَلَيْنِ سورة رحن ع ۲ " آيَةُ الثَّقَلَيْنِ "

ان تینوں میں الف حالتِ وقف میں بھی نہیں پڑھا جائے گا  
اسی طرح وَلَمْ يُوْتَا اور وَايَاتٍ میں بھی الف مخذوف ہے ۔

واو مخذوف کی مثالیں :-

(۱) وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ يَدْخُوا الْإِنْسَانَ تھائی

(۲) وَيَمِخُ اللَّهُ سورة شوریٰ ع ۳ اصل میں وَيَمِخُوا اللَّهُ تھائی

(۳) يَدْعُ الدَّاعِ يَدْخُوا الدَّاعِ تھائی

(۴) وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سورة تحریم ع ۱ اصل میں

وَصَالِحُوا الْمُؤْمِنِينَ تھائی



میں مرسوم نہیں ہے۔ نقاط اور حرکات کی طرح اس میں کو بھی لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں غلطی واقع نہ ہو۔ مصحف عثمانی میں مرسوم نہ ہونے کی وجہ سے حذف جائز ہے۔ جیسے فَمَا اِنَّ اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کو وصلًا مفتوح پڑھتے ہیں اس لئے وصلًا اثبات بھی جائز ہے جیسے فَمَا اِنَّ دونوں طرح جائز ہے اور بطریق شاطبی اثبات اولیٰ ہے۔

(۷) وَلِيَكُوْنَا مِنَ الصّٰغِرِيْنَ سوره يوسف ع ۴۷ میں اور كَسَفًا

سورہ طلق میں نون خَفِيْفَةً تاکید کا ہے۔ نون تنوین کا نہیں کیونکہ تنوین اسموں کے لئے مخصوص ہے اور یہ دونوں فعل ہیں یعنی دونوں جگہ نون ساکن ہے۔ لیکن دو زبر کی تنوین کی طرح بشكل الف مرسوم ہے تو باعتبار رسم الف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے دو مقام ہیں اور سات جگہ قرآن مجید میں کَابِنٌ مرسوم ہے اصل میں ای ہے۔ کاف حرف تشبیہ اس پر داخل ہے اور تنوین بشكل نون ہوا ہے تو رسم خط کے مطابق نون ساکن پر وقف کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ



## اجراءِ تعوُّذ

## اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

همزة :- کا مخرج اقصائے حلق ہے اس میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں اور غیر متضادہ کوئی نہیں۔  
صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جہر (۲) مشدّت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
یہ ہمزه قطعی ہے جو وصل اور ابتدا دونوں حالتوں میں ثابت و باقی رہتا ہے یہ حذف نہیں ہوتا اور ہمزه ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ہمزه ہمیشہ اور ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔

عین :- کا مخرج وسط حلق ہے اس میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں اور غیر متضادہ کوئی نہیں۔  
صفات لازمہ متضادہ

(۱) جہر (۲) توسط (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
عین مضموم ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہوں گے اور ضمہ کو داؤ معروف کی بُوَد سے کر پڑھیں گے۔

واؤ:- واؤ مدہ ہے اس کا مخرج جوفِ وہن ہے اس میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں اور غیر متضادہ کوئی نہیں۔

صفات لازمہ متضادہ:-

(۱) جہر (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
واؤ مدہ کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ گول ہوں گے۔

ذال:-

ذال کا مخرج زبان کا سرا اور ثنایا علیا کا مسوڑھوں سے ملا ہوا کنارہ ہے۔ ذال میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں اور غیر متضادہ کوئی نہیں۔

صفات لازمہ متضادہ

(۱) جہر (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
ذال کے ضمہ کو واؤ معروف کی بودے کر پڑھیں گے

با:-

با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا اندرونی تری والا حصہ ہے۔ با میں

صفاتِ لازمہ چھ ہیں۔ پانچ صفاتِ متضادہ اور ایک غیر متضادہ۔

صفاتِ لازمہ متضادہ:-

(۱) جبر (۲) شدت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق غیر متضادہ:

(۱) قلقلہ:-

با کے کسرہ کو یائے معروف کی بو دے کر پڑھیں گے۔ اور با کے بعد ہمزہ وصلی ہے درج کلام کی وجہ سے گر جائے گا کیونکہ اصل میں بِاللّٰہِ ہے۔

لام:-

لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ حافہ اور ضاحک ناب رباعی اور ثنیہ کے مسوڑھے ہیں۔ لام میں صفاتِ لازمہ متضادہ پانچ ہیں اور ایک غیر متضادہ:

صفاتِ لازمہ متضادہ:-

(۱) جبر (۲) توسط (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق

غیر متضادہ:

## (۱) انحراف

پہلے لام کا بعد والے لام میں حرفِ شمشی کی وجہ سے اوغام  
صغیر مثلین ہوگا۔ ما قبل با مکسور ہونے کی وجہ سے لام  
باریک پڑھا جائے گا اور مشدد ہونے کی وجہ سے اس کے ادا  
کرنے میں دو حروف کی مقدار دیر لگے گی اور لام کے بعد جو  
کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام اس میں مد اصلی ہوگی۔  
ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔

ہا:-

ہا کا مخرج حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے۔ ہا میں  
صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں اس میں غیر متضادہ کوئی نہیں  
ہے۔ صفات لازمہ متضادہ

(۱) ہس (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
ہا کے کسرہ کو یائے معروف کی بودے کر پڑھیں گے۔

میم:- میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ ہے  
میم میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں غیر متضادہ کوئی نہیں۔

## صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جہر (۲) توسط (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق  
یہ من جارہ کا نون ہے اصل میں ساکن ہے۔ اجتماع  
ساکنین علیٰ غیرِ حدّہ کی صورت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ما  
بعد کے ملانے کی وجہ سے اس کو فتحہ دے کر پڑھیں گے۔

## ہمزہ :-

ہمزہ وصلی ہے ما قبل ملانے کی وجہ سے گر جائے گا۔

لام :- لام تعریف کا ہے شین حروف شمسی کی وجہ  
سے اوغام ہوگا۔

شین :- شین کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کاتالو  
ہے۔ شین میں صفات لازمہ چھ ہیں پانچ متضادہ اور ایک غیر  
متضادہ۔

## صفات متضادہ :-

(۱) ہمس (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
غیر متضادہ

(۱) تفتیشی - شین مشدود ہونے کی وجہ سے اس کے ادا کرنے میں دو حرف کی مقدار دیر لگے گی۔

یا :- یائے لین ہے اس کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو ہے۔ اس میں صفات لازمہ چھ ہیں پانچ متضاد اور ایک غیر متضاد۔

صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جہر (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات غیر متضادہ لین۔

لین :-

اس میں مد قصر ہوگی یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔

طا :- طا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ ہے۔ طا میں صفات لازمہ چھ ہیں۔ پانچ متضاد اور ایک غیر متضادہ صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جہر (۲) شدت (۳) استعلاء (۴) اطباق (۵) اصمات

غیر متضادہ مقلد :-

طا میں بوجہ استعلاء اور اطباق کے دو درجہ کی تفخیم ہوگی۔  
اور طا کے بعد کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے  
پڑھیں گے۔

نون :- نون کے کسرہ کو یائے معروف کی بُودے کر  
پڑھیں گے۔

همزة :- همزة وصلی ہے ما قبل کے ملانے سے گر  
جائے گا۔

لام :- لام تعریف کا را (حروف شمسی) کی وجہ سے  
ادغام ہوگا۔ امام خلیل اور امام سبویہ کے نزدیک ادغام صغیر  
مقاربن تام ہوگا۔ اور امام فراء کے نزدیک ادغام صغیر  
متجانس تام ہوگا۔

را :- را کا مخرج زبان کی پشت کا سرا اور رباعی اور  
ثنیہ کے سوڑھے ہیں۔ را میں صفات لازمہ سات ہیں پانچ  
متضادہ اور دو غیر متضادہ۔

## صفات متضادہ :-

(۱) جبر (۲) توسط (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق

غیر متضادہ :-

(۱) انحراف (۲) مشابہت تکریر

را مشدد ہونے کی وجہ سے اس کے ادا کرنے میں دو حرف کی مقدار دیر لگے گی۔

جیم :- جیم کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر تالو ہے۔

جیم میں صفات لازمہ چھ ہیں پانچ متضادہ اور ایک غیر متضادہ

صفات متضادہ :-

(۱) جبر (۲) شدت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات

غیر متضادہ (۱) قلقلہ

یا :- یا مدہ ہے اس کا مخرج جوف دہن ہے یا میں

صفات لازمہ پانچ ہیں اس میں غیر متضادہ نہیں ہے۔

صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جبر (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات



میم :- میم کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ آخری میم پر جب وقف کریں گے تو اس کو سکون عارضی کہتے ہیں کیونکہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے۔ اس مقام پر وقف کی دو قسمیں ہوں گی (۱) کیفیت وقف (۲) محل وقف۔ پھر کیفیت وقف کی دو قسمیں ہوں گی (۱) وقف بالاسکان (۲) وقف بالزوم

### وقف بالاسکان :-

میم کو بالکل ساکن کر دینا وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ اس پر مد کی تین وجوہ بنتی ہیں (۱) طول مع الاسکان (۲) توسط مع الاسکان (۳) قصر مع الاسکان اور یہ تینوں جائز ہیں۔

### وقف بالزوم :-

میم کے کسرہ کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا وقف بالزوم کہلاتا ہے۔ اس پر بھی مد کی تین وجوہ بنتی ہیں۔ (۱) قصر مع الزوم (۲) توسط مع الزوم (۳) طول مع الزوم اس میں پہلی وجہ جائز ہے یعنی قصر مع الزوم۔ باقی دو وجوہ یعنی توسط مع الزوم، طول مع الزوم غیر جائز ہیں اس لئے کہ مد فرعی کے

لئے حرف مدد لین کے بعد سکون چاہئے۔ لیکن روم کی حالت میں تو سکون نہیں ہوتا۔ بلکہ حرف کی حرکت کا تہائی حصہ پڑھا جاتا ہے اس لئے طول توسط سبب نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

چار وجوہ جائز:

طول، توسط، قصر مع الاسکان، قصر مع الروم  
 وجوہ غیر جائز: (۱) طول مع الروم (۲) توسط مع الروم  
 اور محل وقف کے اعتبار سے وقف تام ہی ہوگا۔

## اجراء تسمیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

با:-

با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا اندرونی تری والا حصہ ہے۔ با میں  
صفات لازمہ چھ، پانچ متضادہ اور ایک غیر متضادہ ہے۔

صفات لازمہ متضادہ:

(۱) جہر (۲) شدت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق

غیر متضادہ

قلقلہ

با کے کسرہ کو یائے معروف کی بودے کر پڑھیں گے۔

سین :- سین کا مخرج زبان کی نوک، ثنایا علیا اور ثنایا

سفلی کا درمیانی حصہ ہے۔ سین میں صفات لازمہ چھ

ہیں۔ پانچ متضادہ اور ایک غیر متضادہ۔

صفات لازمہ متضادہ :- (۱) عس (۲) رخوت  
(۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات

غیر متضادہ :-

صغیر سین ساکن ہے اس کے ادا کرتے وقت  
ایک حرف کی مقدار دیر لگے گی۔

میم :- میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ  
ہے۔ میم میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں غیر متضادہ کوئی  
نہیں۔

صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جہر (۲) توسیٹ (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق  
میم کے کسرہ کو یائے معروف کی بودے کر پڑھیں گے۔

همزة :- همزة کا مخرج حلق کا سینے کی طرف والا حصہ

ہے اس میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں غیر متضادہ کوئی نہیں۔

صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جبر (۲) شدت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
یہ ہمزہ وصلی ہے ما قبل ملانے کی وجہ سے گر جائے گا۔ ابتدا  
اور اعادہ کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔

لام :- لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ حافہ  
اور ضاحک ناب، رباعی اور ثنیہ کے سوڑھے ہیں۔ لام میں  
صفات لازمہ چھ ہیں۔ ایک غیر متضادہ اور پانچ متضادہ ہیں۔

صفات متضادہ :-

(۱) جبر (۲) توسط (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق

غیر متضادہ :-

انحراف :- پہلے لام کا بعد والے لام میں حرف  
شمسی کی وجہ سے ادغام صغیر مثلین تام ہوگا اور ما قبل میم

مکسور ہونے کی وجہ سے لام باریک پڑھا جائے گا اور مشدو ہونے کی وجہ سے اس کے ادا کرنے میں دو حرف کی مقدار دیر لگے گی اور لام کے بعد کھڑی زیر الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ اس میں مد اصلی ہوگی ایک الف کی مقدار لبا کر کے پڑھا جائے گا۔

ھا:۔ ہا کا مخرج حلق کا سینے کی طرف کا حصہ ہے۔ ہا میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں غیر متضادہ کوئی نہیں صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) حس (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات ہا کے کسرو کو یائے معروف کی بودے کر پڑھیں گے اور ہا کے بعد ہمزہ وصلی گر جائے گا اور لام تعریف کا را میں ادغام ہوگا۔ امام خلیل اور سیبویہ کے نزدیک ادغام صغیر متقاربین تام ہوگا۔ اور امام فراد کے نزدیک ادغام صغیر متجانسین تام ہوگا۔

را:۔

را کا مخرج زبان کی پشت کا سرا اور نہاگی ثنیہ کے سوڑھے

ہیں۔ را میں صفات لازمہ سات متضادہ پانچ اور غیر متضادہ دو ہیں۔

صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جبر (۲) توسط (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق

غیر متضادہ :-

(۱) انحراف (۲) مشابہت تکریر  
را مفتوح ہے پر پڑھی جائے گی اور مشدود ہونے کی وجہ سے اس کے ادا کرنے میں دو حرف کی مقدار لگے گی۔

حا :- حا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ حا میں صفات لازمہ متضادہ پانچ ہیں اور غیر متضادہ کوئی نہیں۔

صفات متضادہ :-

(۱) ہس (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات  
حاساکن ہے اس کے ادا کرنے میں ایک حرف کی دیر لگے گی۔

میم :- میم کے بعد الف یعنی کھڑا زیر ایک الف کی مقدار لبا کر کے پڑھا جائے گا۔

نون :- نون کا مخرج زبان کا کنارہ ثاب، رباعی اور ثنیہ کے سوڑھے ہیں۔ نون میں صفات لازمہ متضادہ پانچ اور غیر متضادہ کوئی نہیں ہے۔

صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جہر (۲) توسط (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) ازلاق  
نون کے کسرہ کو یائے معروف کی بُودے کر پڑھیں گے۔ ہمزہ وصلی و لام و را اور حا کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔

یا :-

یا کا مخرج جوف دہن یائے مدہ کا ہے۔ یائے مدہ میں صفات لازمہ متضادہ پانچ اور غیر متضادہ کوئی نہیں ہے۔

صفات لازمہ متضادہ :-

(۱) جہر (۲) رخوت (۳) استفال (۴) انفتاح (۵) اصمات



میم :- میم کا بیان بھی پہلے ہو چکا ہے۔ اگر میم پر وقف کریں تو اس کو سکون عارضی کہیں گے کیونکہ وقف کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا ہے۔ اس مقام پر وقف کی دو قسمیں ہوں گی۔

(۱) وقف بالاسکان (۲) وقف بالرّوم

وقف بالاسکان :-

میم کو بالکل ساکن کر دینا وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ اس پر مد کی تین وجوہ بنتی ہیں۔

(۱) طول مع الاسکان (۲) توسط مع الاسکان (۳) قصر مع الاسکان یہ تینوں جائز ہیں۔

وقف بالرّوم :-

میم کے کسرہ کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا وقف بالرّوم کہلاتا ہے۔ اس پر مد کی تین وجوہ بنتی ہیں۔ (۱) قصر مع الرّوم

(۲) توسط مع الرّوم (۳) طول مع الرّوم

اس میں پہلی وجہ قصر مع الرّوم جائز ہے۔ باقی ماندہ وجوہ توسط مع الرّوم اور طول مع الرّوم جائز ہے۔ اس لئے مد فرعی

کے لئے حرف مدولین کے بعد سکون چاہیے لیکن روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا بلکہ حرف کا تہائی حصہ پڑھا جاتا ہے اس لئے طول، تو سبب نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

جائز وجوہ :-

(۱) طول (۲) توسط (۳) قصر مع الاسکان (۴) قصر مع الروم

غیر جائز وجوہ :-

(۱) طول مع الروم (۲) توسط مع الروم

محل وقف :-

محل وقف کے اعتبار سے وقف ہوگا کیونکہ احناف کے مسلک کی بنا پر تسمیہ کسی کا جز نہیں۔ یہ ایک متبرک آیت مبارکہ ہے جو سوائے سورۃ برات کے ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے سین جز سورت نہ ہونے کی وجہ سے جہری نمازوں میں بالجر نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں البتہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک جزء قرآن ہے اسی لئے ختم

قرآن مجید تراویح میں کسی سورت کے ساتھ تسمیہ کا پڑھنا  
مسنون ہے۔

( وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ )

## فوائد ضروریہ

### پہلا فائدہ :-

قرآن مجید میں چار کلمے ایسے ہیں کہ صاد کے ساتھ مرسوم ہیں لیکن روایتِ حفص میں ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔  
 (۱) وَيَبْصُطُ بقرہ کے ۳۲ رکوع میں (۲) بَصَّطَةٌ اعراف کے رکوع ۹ میں ان دونوں میں سین پڑھنا چاہئے۔ (۳) الْمَصِيطُورُ سورہ طور کے رکوع ۲ میں سین اور صاد دونوں جائز ہے (۴) بِمَصِيطِرٍ سورہ غاشیہ میں خالص صاد پڑھنا چاہئے سورہ روم کے آخری رکوع میں لفظ ضَعِفَتْ تینوں جگہ ضاد پر پیش لکھی ہے مگر زبر کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔

### دوسرا فائدہ :-

اخفاء کی ادائیگی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت ہوتی ہے۔ زبان کامل طور پر اپنے مخرج میں نہیں لگنی چاہئے۔ قدرے

ہٹ کر بقدر ایک الف کے ناک میں آواز لمبا کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے مِنْ قَبْلِكَ - جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ اَظْهَارٍ اور غنہ میں زبان کو اپنے مخرج میں کامل طور پر لگا کر ادا کرنا چاہئے جیسے عَذَابٌ عَظِيمٌ غنہ کی مثال۔  
 اِنَّ الَّذِيْنَ - اَشَدَّ النَّاسِ -

تیسرا فائدہ:-  
 یَسْرُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . اِدْر  
 ن وَالْقَلَمِ ~~میں~~ اور ادغام مع الغنہ ہوگا لیکن یاد رکھیں اگر ادغام کریں گے تو مد حنی مشقل ہوگی اگر اظہار کریں گے تو مد حنی مخفف ہوگی۔

طا کا ادغام تا میں تمام قراء کے نزدیک ناقص ہی ہوتا ہے جیسے بَسَطْتُ ، أَحَطْتُ ، فَزَطْتُ ، فَزَطْتُ ۔

تنبیہ:-

طا سے پہلے اور بعد والے باریک حرف کو پُر نہ پڑھا جائے۔

چوتھا فائدہ:-

توین میں دو زیر اور دو پیش حالت وقف میں نہیں پڑھی

جائیں۔ آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے جیسے عَذَابٌ عَظِيمٌ  
سَمَوَاتٍ اور تنوین نصب یعنی دو زیر حالت وقف میں الف  
سے بدل جاتی ہے۔ جیسے نَا سْرًا۔ تَقْلِيْلًا۔ وَغَيْرًا۔

پانچواں فائدہ :-

پُر حروف۔ یعنی حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ ال رکی  
ادائیگی میں جبکہ زیر والے ہوں تو ہونٹوں پر کسی قسم کی  
حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح باریک حروف کی  
ادائیگی میں بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ امالہ صغریٰ نہ پیدا  
ہو۔ جیسے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وغیرہ :

چھٹا فائدہ :-

حروف کے مشہور القاب

(۱) ا و ی ان تینوں حروف کو جونی ومدہ اور ہوائیہ  
کہتے ہیں۔

(۲) ء ہ۔ ع۔ ح۔ غ۔ خ ان چھ حروف کو  
حلقیہ کہتے ہیں۔

(۳) ق اور ک کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔

(۴) ج ش ی ان تینوں حروف کو شجریہ کہتے ہیں۔

(۵) ض کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔

(۶) ل ن ر کو حروف ذلیقیہ اور طرفیہ کہتے ہیں۔

(۷) ط د ت کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔

(۸) ظ ز ث کو حروف ثویہ کہتے ہیں۔

(۹) ص ز س کو حروف صغیر اور اصلیہ کہتے ہیں۔

(۱۰) ف ب م و ان چاروں کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔

حلق گلے کو اور لہاتِ حلق میں اوپر لٹکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔

شجریہ درمیان کو کہتے ہیں۔ حافہ کروش زبان کو اور ذلق اور طرف زبان کے کنارہ نطع نیچائی، ڈ مسوڑھے صغیر سیٹی کی طرح آواز، اسلہ تیزی روانی زبان اور شفقت پہنچنے کو کہتے ہیں۔

مخارج کی دو قسمیں ہیں (۱) محقق (۲) مقدر

اور مخارج کی اصلیں (جزیں) تین ہیں

حلق، زبان، ہونٹ

## ساتواں فائدہ :-

نون ساکن و تنوین اور میم ساکن کے قاعدوں کے مطابق  
 بیس حروف میں صفت غنہ پائی جاتی ہے یعنی پندرہ حروف  
 اخفاء اور ایک حرف اقلاب یعنی حرف با اور چار حروف  
 یَـمَلُونِ مَنُوٰی اور وہ حروف یہ ہیں۔ ت ث ج  
 د ذ ز س ش ص ض ط  
 ظ ف ق ک ب م ن  
 و ی

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ  
 وَالصَّوَابُ



## ضمیمہ مقدمتہ التجوید

تکبیر:-

سوال: تکبیر پڑھنے کا کیا حکم ہے نیز وحی کتنے عرصہ تک بند رہی؟

جواب: قرآنِ کریم کے ختم کے وقت سورہ والضحیٰ سے آخر سورہ والناس تک تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھنا روایت " اور سنداً " ثابت ہے۔ (غیاث النفع فی قرأت التسبیح)

اس طرح تکبیر کا پڑھنا تمام شیوخ اور خصوصاً قراء مکہ کا معمول رہا ہے تکبیر پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ ابتدائے بعثت میں نزول وحی کے بعد کچھ مدت کے لئے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قلبِ اطہر پر گراں گزرا وہ کان مبارک جو کلام الہی کے سننے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ قلبِ اطہر جو ارشادات ربانی کا خوگر ہو چکا تھا اس کے لئے وحی کا بند ہونا ناقابل برداشت تھا اور کفار کے طعنے بھی شروع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے

اس لئے اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ آپ وحی کا انتظار فرماتے رہتے اور نہایت ہی مغموم رہتے تھے تو خداوند کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں بھیجا اور سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی۔ اس سورۃ مبارکہ میں احسانات عظیم کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جیسے **وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنْكَ مِنَ**

**الْأُولَىٰ . وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ .**

ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بدرجہا بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے فرط مسرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بلند فرمایا۔ انقطاع وحی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بارہ دن، پندرہ دن یا چالیس دن

خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم

خدا چاہتا ہے رضائے محمدؐ

سوال: سورۃ والضحیٰ تا سورۃ الناس تکبیر کی کتنی وجوہ ہیں؟  
جواب: اخیر آیت اور تکبیر و بسم اللہ کو دوسری سورۃ کی ابتداء آیت سے ملانے اور وقف کرنے میں آٹھ وجوہ نکلتی ہیں جن میں سے سات جائز ہیں اور ایک غیر جائز ہے۔

## جائزہ جوہ

- (۱) فصل کل یعنی اول سورۃ کی آخری آیت تکبیر اور بسم اللہ تینوں پر وقف کرنا جیسے فَحَدِّثْ - اللَّهُ أَكْبَرُ .  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَلَمْ نَشْرَحْ .
- (۲) فصل اول و ثانی اور وصل ثالث یعنی اول سورۃ کی آخری آیت و تکبیر دونوں پر وقف کرنا اور بسم اللہ کو دوسری سورۃ سے ملا کر پڑھنا جیسے فَحَدِّثْ - اللَّهُ أَكْبَرُ .  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَلَمْ نَشْرَحْ .
- (۳) وصل کل یعنی سورۃ اولیٰ کا وصل تکبیر سے اور تکبیر کا وصل بسم اللہ سے اور بسم اللہ کا وصل سورۃ ثانیہ سے ملا کر پڑھنا جیسے فَحَدِّثْ . اللَّهُ أَكْبَرُ .  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَلَمْ نَشْرَحْ .
- (۴) وصل اول فصل ثانی اور وصل ثالث یعنی اول سورۃ کی آخری آیت کو تکبیر سے اور بسم اللہ دوسری سورۃ سے ملا کر پڑھنا اور تکبیر پر وقف کرنا جیسے فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ .  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَلَمْ نَشْرَحْ .
- (۵) وصل اول فصل ثانی و ثالث یعنی اول سورۃ کی آخری آیت کو تکبیر سے ملا کر پڑھنا اور تکبیر اور بسم اللہ دونوں پر

وقف کرنا جیسے فَحَدَّثَ اللهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْمَنْ تَشْرَحُ

(۶) فصل اول اور وصل ثانی و ثالث یعنی اول سورۃ کی  
آخری آیت پر وقف کرنا اور تکبیر کو بسم اللہ اور بسم اللہ کو  
دوسری سورۃ سے ملا کر پڑھنا جیسے

فَحَدَّثَ اللهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمَنْ تَشْرَحُ

(۷) فصل اول و ثالث اور وصل ثانی یعنی اول سورۃ کی  
آخری آیت پر وقف کرنا اور تکبیر کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھنا  
جیسے فَحَدَّثَ اللهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْمَنْ تَشْرَحُ

مذکورہ تین صورتوں میں تکبیر کا پڑھنا اول سورۃ کے آخر  
کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور دوسری سورۃ کی ابتداء کے لئے  
بھی لیکن چوتھی پانچویں صورت میں تکبیر کا پڑھنا سورۃ  
کے آخر کے لئے ہی ہو سکتا ہے اور چھٹی و ساتویں صورت  
میں تکبیر کا پڑھنا دوسری سورۃ کے اول ہی کے لئے ہو سکتا  
ہے۔

ناجائز وجہ

وصل اول و ثانی اور فصل ثالث یعنی اول سورۃ کی آخری

آیت کو تکبیر سے اور تکبیر کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھنا اور  
بسم اللہ پر وقف کرنا۔ جیسے فَحَدِّثِ اللّٰهُ اَكْبَرُ بِسْمِ اللّٰهِ  
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اَلَمْ نَشْرَحْ .

یہ وجہ اس لئے ناجائز ہے کہ یہاں پر شبہ ہوتا ہے کہ بسم  
اللہ اول سورۃ کے آخر کے لئے پڑھی گئی ہے۔ حالانکہ بسم  
اللہ تو اول سورتوں کے لئے ہی پڑھی جاتی ہے کیونکہ اول  
سورۃ ہی بسم اللہ کا محل ہے اور بغیر سورۃ توبہ کے ہر سورۃ  
کی ابتداء میں نازل ہوئی ہے۔

سوال : سورہ والضحیٰ سے سورہ والناس تک جن کی تعداد  
بائیس ہے۔ اگر ان کو تکبیر سے ملا کر پڑھیں تو آخری حرف  
کی حرکات کی وجہ سے کتنے احکام ہیں وضاحت کیجئے؟

جواب : ان کے مختلف احکام ہیں جن کی تفصیل یہ ہے  
مندرجہ ذیل گیارہ سورتوں میں سے تین سورتیں ساکن ہیں  
اور آٹھ سورتوں میں آخری حرف پر تنوین ہے ان کو تکبیر  
سے ملا کر پڑھیں تو ہمزہ وصلی کو درج کلام کی وجہ سے حذف  
کر کے پہلے ساکن حرف یا تنوین کو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ  
کی وجہ سے زبردے کر پڑھیں گے جیسے فَحَدِّثِ اللّٰهُ اَكْبَرُ  
فَاَرْغَبِ اللّٰهُ اَدْكَبْرُ - وَاَقْتَرِبِ - اللّٰهُ اَكْبَرُ  
باقی آٹھ سورتوں میں آخری حرف پر تنوین ہے ان کو اس

## طرح پڑھیں گے

- (۱) حَامِيَةٌ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ (۲) لَخِيْرٌ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۳) مُمَدَّدَةٌ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ (۴) مَاكُوْلٌ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۵) مِنْ خَوْفِ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ (۶) تَوَابًا نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۷) مِنْ تَمَسِدِ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ (۸) اَحَدٌ نِ اللّٰهُ اَكْبَرُ

مندرجہ ذیل باقی نو سورتوں کا آخری حرف متحرک ہے جن میں تین سورتوں کے آخری حرف پر زبر ہے اور ایک سورۃ کے آخری حرف پر پیش ہے۔ باقی پانچ سورتوں کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے۔ ان سورتوں کو اگر تکبیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہمزہ وصلی کو گرا کر آخری متحرک حرف کو اسی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جیسے

- (۱) بِاِحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۲) مَطْلِعِ الْفَجْرِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۳) عَنِ النَّعِيْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۴) بِالصَّبْرِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۵) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۶) هُوَ الْاَبْتَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
 (۷) وَلِيْ دِيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(۸) إِذَا حَسَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ  
(۹) وَالنَّاسِ اللَّهُ أَكْبَرُ

اور ابو طاہر عبد الواحد بن ابی ہاشم اور ابن صباح وغیرہ کے طریق سے تہلیل اور تکبیر کے بعد کلمات کا اضافہ کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جیسے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ

ف: جن آٹھ سورتوں کے آخری حرف کو اگر تہلیل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو آخری حرف کی تنوین کو یرملون کے قاعدے کے مطابق لانا فیہ میں ادغام کر کے پڑھیں گے۔  
جیسے لَخَبِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

اور باقی چودہ سورتوں کے آخری حرف تہلیل سے ملا کر پڑھیں تو جن سورتوں کا آخری حرف ساکن، متحرک یا ہائے ضمیر ہے تو بدستور اس حرف کو ساکن، متحرک یا ہائے ضمیر کی حرکت کو صلہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے لانا فیہ سے ملا دیں گے جیسے ساکن کی مثال۔

(۱) فَحَدَّثَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

## متحرک کی مثال

(۲) يَا حَكِيمَ الْحَاكِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

ہائے ضمیر کا صلہ بدستور رہے گا۔

(۳) لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.



## الحال المرتحل

سوال: الحال المرتحل سے کیا مراد ہے۔ مفصل بیان کیجئے؟  
 جواب: حال منزل پر آنے والے اور مرتحل منزل پر پہنچ کر  
 پھر سفر کی تیاری کرنے والے کو کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے  
 کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک  
 وسلم بہترین عمل کونسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 ارشاد فرمایا۔ حال مرتحل، تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حال  
 مرتحل کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ  
 قرآن کا پڑھنے والا ہے کہ جب ایک قرآن مجید ختم کرے تو  
 اس کے بعد دوسرا قرآن مجید بلا فصل شروع کرے گا۔ گویا  
 کہ آپ نے قرآن مجید پڑھنے والے کو اس مسافر کے ساتھ  
 تشبیہ دی ہے جو سفر سے فارغ ہو کر اپنے مقام پر پہنچ جائے  
 اور پہنچنے کے بعد اسی وقت دوسرے سفر پر روانہ ہو جائے۔

مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے اس طرح قرآن کریم ختم کرنے کو افضل الاعمال  
 اور احب الاعمال فرمایا ہے اصل میں اس عمل سے کثرت

تلاوت ہے اس کی مداوت کی طرف ترغیب دلانا ہے۔ یعنی حال مرتحل سے مراد قرآن حکیم کا ختم کرنا اور پھر فوراً دوسرا قرآن مجید شروع کر دینا۔ یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ختم کر کے پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ شروع سے اَوَّلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھ لیا جائے۔

اور فقہائے عظام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرے تو معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھنے کے بعد رکعت کرے اور پھر آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کے شروع سے المفلحون تک پڑھے کیونکہ حال مرتحل یعنی اس قرآن مجید ختم کرنے والے کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس فرمایا ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس طریقہ پر قرآن مجید ختم کرنا مستحب افضل، نہایت ہی پسندیدہ ہے۔

### تَمَنِّيَاتٌ

بِوَسِيلَةِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ  
وَسَيِّدَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى  
عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَتْبَاعِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

## جامعہ صدیقیہ سراج العلوم کا اجمالی تعارف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَعْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اما بعد! احقر نے کئی بار ارادہ کیا کہ شیخ القراء مولانا قاری محمد یوسف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ کا کتاب میں تعارف شامل کیا جائے لیکن قبلہ قاری صاحب کی طرف سے نفی میں جواب ملا۔ بالآخر جامعہ کے اجمالی تعارف کی الحمد للہ اجازت مل گئی جو ناظرین کرام کے پیش خدمت ہے۔ شیخ القراء جناب قاری محمد یوسف صاحب صدیقی بانی و ناظم اعلیٰ جامعہ صدیقیہ سراج العلوم مختلف مقامات میں تجوید و قرأت کی خدمت کرتے رہے۔ جامعہ نعیمیہ، جامع ہجویریہ و اتانگج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور، مدرسہ خدام القرآن کاچھو پورہ لاہور۔ بالآخر علامہ قاضی عبدالنبی کوکب کے انتخاب پر جامع مسجد غوثیہ بیرون مستی گیٹ لازمی اڈہ لاہور میں تیار شدہ مدرسہ کاچھو پورہ سے لایا گیا اور مفتی محمد اعجاز ولی خان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے جامعہ صدیقیہ سراج العلوم نام منتخب فرمایا اور

وسائل کی کمی کے باوجود معیاری تعلیم حفظ و ناظرہ، تجوید قرأت اور ابتدائی درس نظامی کی تدریس یکم اپریل ۱۹۶۳ کو شروع کی۔ سخت ترین مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن مرد فقیر ثابت قدم رہے اور ہزاروں حفاظ و قراء جامعہ ہذا سے فراغت حاصل کر کے ملک اور بیرون ملک قرآن کریم کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب کی تمنا یہ تھی کہ جامعہ ہذا میں قرأت سبعہ و عشرہ کا بھی معقول انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی پوری فرمائی مولانا قاری ابوالحسن سید مظفر حسین بخاری نقشبندی جنہوں نے علم تجوید کی تکمیل جامعہ ہذا میں کی اور شاہ صاحب کا رجحان دیکھا تو سبعہ و عشرہ کی طرف تھا اور قاری صاحب موصوف نے اساتذہ الاساتذہ قاری المصطفیٰ سید حسن شاہ بخاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر شاہ صاحب کے متعلق اظہار کیا۔ جناب قاری حسن شاہ صاحب نے خندہ پیشانی سے اپنے تلامذہ میں شامل کیا اور شاہ صاحب موصوف نے بڑی محنت سے قرأت سبعہ و عشرہ سے سند فراغت حاصل کی اور پھر ۲۵ شوال ۱۳۰۲ھ میں جامعہ ہذا میں قرأت سبعہ و عشرہ کا انتظام کیا گیا۔ یہ خدمت

قبلہ شاہ صاحب کے سپرد کی گئی الحمد للہ اس وقت بڑی کامیابی کے ساتھ قرأت سبعہ و عشرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس شعبہ میں علماء اور حفاظ کے علاوہ جناب خالد حسین قرأت سبعہ و عشرہ جامعہ ہذا سے فارغ ہو کر اپنے فارغ اوقات میں تجوید و قرأت کی تعلیم دے رہے ہیں اس لحاظ سے جامعہ ہذا اہلسنت و الجماعت کے فن تجوید و قرأت سبعہ و عشرہ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اللہ رب العزت اس جامعہ کو پہلے سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

راقم الحروف احقر قاری محمد انور چشتی فاضل جامعہ

ہذا مدرس شعبہ تجوید و قرأت

قاری محمد یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ  
کی تازہ تصنیف

# ضیاء التجوید

☆ رمضان المبارک میں شائع ہو رہی ہے

☆ فن تجوید و قرأت پر ایسی بے مثال تصنیف

جس کو پڑھنے کے بعد کسی

کتاب کی ضرورت نہیں

رعایتی قیمت پر حاصل کرنے کے لیے براہ راست رابطہ کیجئے

## امہ پبلی کیشنز

19- ایبٹ روڈ، مقابل ٹی وی سٹیشن، لاہور

فون : 6368363 فیکس : 6364157



## چند ایمان افروز کتابیں

از قلم: سید عبد الرحمن بخاری

ایم۔ اے، ایل ایل۔ ایم (گولڈ میڈلسٹ)

ریسرچ آفیسر، قائد اعظم لائبریری لاہور

اسلامی آداب



(قائد اعظم لائبریری، باغ جناح لاہور)

لمعات قرآنی



(مکتبہ مہدیہ سلطانیہ، دہلی)

التفصا ص فی الفقہ الاسلامی



(مرکز تحقیق، دیال سنگھ لائبریری لاہور)

اسلامی قانون کا نظریہ مصلحت



(قائد اعظم لائبریری لاہور)

اسلامی ریاست میں نفاذ عدل کے ادارے



(دیال سنگھ لائبریری لاہور)

عظمت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ



(مکتبہ مہدیہ سلطانیہ، دہلی)

فقہ اسلامی کی تدوین نو



(ذریعہ)

رابطہ دارا لنگر، 1۔ لورڈ مال لاہور